

۲۱۰
علماء اور دورِ جدید
خصوصیتی شمارہ

زیر سرپرستی
مولانا وحید الدین خان
صدر اسالیب مرکز

الرسالہ
Al-Risala

مستقبل کی کامیاب منصوبہ بندی صرف وہ لوگ کرتے ہیں
جو ماضی اور حال کا بے لائق جائزہ لینے کا حوصلہ رکھتے ہوں

MAKTABA AL-RISALA
1439 OCEAN AVE. # 4C
BROOKLYN, N. Y. 11205
TEL. (718) 256-
~~1234567890~~

جولائی ۱۹۹۳ شمارہ ۲۰۰

علماء اور دوجدید

مولانا وحید الدین خاں

MAKTABA AL-RISALA
1439 OCEAN AVE. # 4C
BROOKLYN, N. Y. 11230
TEL.: (718) 258-3435

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۱۹۹۲ میں لکھنؤ میں ایک سینار ہوا۔ اس کا نظم اسٹوڈنٹس اسلام و لیفیر سوسائٹی نے کیا تھا۔ اس کا موضوع بحث تھا — علماء کا قائد آنکردار۔ راقم المعرفت نے منتظرین کی دعوت پر اس سینار میں شرکت کی۔ زیر نظر مقالہ اسی سینار کے لیے تیار کیا گیا تھا کیم بارچ ۱۹۹۲ کے اجلاس میں اس کا خلاصہ پیش کیا گیا۔

اس مقالہ میں موجودہ زمانہ میں علماء کے قائد آنکردار کا تنقیدی جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ اس قسم کے تنقیدی جائزہ کے لیے شرعی نقطہ نظر یہ ہے کہ دو چیزوں کو بالکل ایک دوسرے سے الگ رکھا جائے۔ ایک ہے لوگوں کی نیت اور ان کے ایمان و اخلاق کا معاملہ۔ دوسرا ہے اس تدبیر کار کا معاملہ جو متعلق اشخاص نے مسائل کے مقابلہ میں اختیار کیا۔

شریعت کے مطابق، نیت یا ایمان و اخلاق کو بحث کا موضوع بنانا سر اسرنا جائز ہے۔ مگر تدبیر کار کو زیر بحث لانا سر اسرنا جائز ہے۔ زیر نظر مقالہ میں اس تقيیم کو پوری طرح محفوظ رکھا گیا ہے۔ اس میں نیت یا ایمان و اخلاق کو زیر بحث لائے بغیر صرف اس تدبیر کار کا جائزہ لیا گیا ہے جو ہمارے علماء نے دور جدید میں اختیار کیا۔

زیر نظر جائزہ کا حاصل یہ ہے کہ علماء نے جو تدبیر کار اختیار کی وہ زمانہ حاضر کے تقاضوں کے مطابق نہ تھی۔ اس لیے ان کی کوششیں اور ان کی قربانیاں نتیجہ خیز ثابت نہ ہو سکیں۔ تاہم یہ علماء کی اجتیادی خطاب تھی، اور جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے ہونم کا اجتیاد اگر درست ہو تو اس کے لیے دو ثواب ہے، اور اگر وہ اپنے اجتیاد میں غلطی کر جائے تو اس کے لیے ایک ثواب۔

یہ مقالہ بظاہر تنقید ہے مگر حقیقت وہ تجویز ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ گورنمنٹ کے جائزہ کی روشنی میں آئندہ کا لا نئے عمل متعین کیا جائے۔ تاکہ جو کام ماضی میں نہیں ہوا اس کو زیادہ صحیح منصوبہ بندی کے ساتھ مستقبل میں انجام دیا جائے۔

وحید الدین

۱۹۹۲ ستمبر

علماء کا قائد ائمہ کردار

موجودہ زمانہ میں علماء کا قائد ائمہ کردار یہ وہ موضوع ہے جس کا مجھے زیر نظر مفت الہ میں جائزہ لینا ہے۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلے یہ جانتے کی مزدورت ہے کہ اسلام نے علماء کے لیے کی کردار مقرر کیا ہے تاکہ ہمیں ایک معیار مل جائے جس کی روشنی میں موجودہ زمانہ کے علماء کی سرگرمیوں کی تدریجی ترقیت متین کی جاسکے۔

علماء کا رسول اسلام میں

رقم الحروف کے نزدیک، علماء کے رسول کے سلسلہ میں قرآن کی رہنمائیت یہ ہے :
 وَمَا كَانَ السُّوْنُونَ بِلَيْلٍ فِرَوْنًا كَافِةً فَلَا
 أُوْرِيْ مُكْنَى بِنَتَّاكَرَ إِلَى إِيمَانِ سَبَّ تَكَلُّكَرَبَّهُوْلَ،
 نَقْنَمَنَ كَلَ فَرْقَةَ مِنْهُمْ طَائِفَةَ
 تَوَالِيْكَيْوُنَ نَزَهُوا كَانَ كَهْرَگَرَوَهَ مِنَسَے اِيْكَ
 حَصْنَكَلَ كَرَأَتَتَاكَرَوَهَ دِينَ مِنَ بَحْبَرَدَأَكَرَتَا اَوَرَ
 لِيَتَفَقَّهُوا فِي الْمَدِينَ وَلِيُنْذَرُوا قَوْمَهُمْ
 اَذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعْنَهُمْ يَحْذَرُونَ
 وَابْسِ جَا كَرَابِنِيْ قَوْمَ كَهْ لَوْگُوْنَ كَوْدُرَاتَاكَرَوَهَ بِيْ
 پَرَهِزِرَ كَرَنَے وَالَّے بَنَتَے۔

(التبہ ۱۲۲)

اس آیت میں تفہم کا لفظ و خاتم طلب ہے۔ پہلے ہم فقریاً تفہم کی لغوی تحقیق کریں گے۔ اس کے بعد یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس آیت کے مطابق علماء کا کردار کیا ہے یا کیا ہونا چاہیے۔ فقریاً تفہم کا لفظ بعد کے زمانہ میں علم الفروع کے نیلے بولا جانے لگا ہے۔ یعنی شریعت کے جزئی مسائل کو جانتا۔ مگریب اس لفظ کا ایک استعمال مفہوم ہے جو نزول قرآن کے بہت بعد رائج ہوا۔ قرآن میں فہمہ موجودہ معروف مفہم میں نہیں ہے۔ بلکہ وہ اس کے اصل لغوی معنی میں ہے۔

راغب الاصفہانی (م ۵۰۲ھ) نے لکھا ہے کہ فقریاً ہے کہ موجود علم کے ذریعہ غائب علم تک پہنچا جائے۔ پس افہم کا لفظ علم کے لفظ سے زیادہ خاص ہے (الفہمہ موتوصیل ای علم غامب

بعالم شاهد فہمہ اخْصُ منَ الْعِلْمِ) المفردات فی فرائیب القرآن، ۲۸۲

لسان العرب (ابن منظور) میں اس کی مفصل تشرییع ہے۔ اس میں بتایا ہے کہ فہمہ اصل افہم کے معنی میں ہے۔ (الفہمہ فی الاصْلِ الْفَهْمِ) لیتفہمہوا فی الْمَدِینَ کی تشریع اس نے لیکو فوغا علماء بہ

کے لفظ سے کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الدین عباس کی بابت دعائیہ طور پر فرمایا تھا : اللهم علّمک الدین و فقہہ فحالنا واریں۔ اس کی تشریع ان الفاظ میں کی ہے : ای فہمہ تأویلہ و معناہ۔ لسان العرب میں الازمری کا یہ قول نقل کیا گیا ہے :

فَالْفَرِجُ لِرَجُلٍ مِنْ كَلَابِ رَبِّهِ وَهُوَ يَصِيفُ فِي شَيْءًا۔ فَلَمَّا فَرَغَ عَسْلَانٌ جَبَ وَهُوَ أَنْتَ كَمْ كَرَ فَارَغَ هُوَ اتَّوَاسَ نَبَّهَا كَلَامَةً قَالَ أَفَقْهَتْ - يَرِيدُ افْقَهَتْ - اس سے اس کی مراد یہ تھی کہ کیا تم نے سمجھ لیا۔

اسی طرح لسان العرب میں اس سلسلہ کا ایک واقعہ ان الفاظ میں نقل کیا گیا ہے :

فَمَدِيَثُ مَلَانٌ - إِنَّهُ مَنْزَلٌ عَلَى بَطْرِيَّةٍ بِالْعَرَاقِ - فَقَالَ لَهَا - هَذِهِ هَذَا مَكَانٌ نَظِيفٌ أَصْلَى فِيهِ - فَقَاتَتْ طَهْرٌ قَلْبَكَ وَصَلَّى حَيْثُ شَئَتْ - فَقَالَ مَلَانٌ : فَقْهَتْ أَفَ فِيهِتْ وَفَطَشَتْ لِلْحَقِّ - (لسان العرب ۵۲۲/۱۳)

اہل لغت کی اس تشریع سے معلوم ہوتا ہے کہ فقرۃ کا مطلب فہم اور بصیرت اور ادراک ہے۔ اسی سے مراد وہ جانتا ہے جو معرفت کے درجہ تک پہنچ چاہے۔ جو آدمی کو شناسائے حقیقت بنادے۔ صرف عالم ہونا فیقہ ہونا نہیں ہے۔ فیقہ وہ ہے جو عالم ہونے کے ساتھ عارف بھی ہو۔

دارَةُ عَمَلٍ كَنْقِيمٍ

اب مذکورہ آیت کو یہجئے۔ تفسیروں کے مطابق اس آیت کا جو پس منظر معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ غزوہ تبوک (۹) میں مدینہ کے کچھ مسلمان نہیں جاسکتے۔ ان مخالفین کے بارہ میں قرآن میں بخت آیتیں اتریں۔ اس کے بعد لوگوں کا حال یہ ہوا کہ بعض سرایا پیش آئے تو اس میں مدینہ کے تمام اہل ایمان چلے گئے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم دین سیکھنے کے پے کوئی آدمی شہر میں باقی

نہ رہا۔ اس وقت لوگوں کو عمومی خروج سے روکنے کے لیے یہ آیت اتری۔

اس آیت میں امت کو مستقل نویعت کا ایک رہنمایا اصول دے دیا گیا۔ وہ یہ کہ جہاد بالسین

اور علم کے میدان کو عملی طور پر ایک دوسرے سے الگ کر دیا گیا۔ امت کے ایک طبقہ کی ذمہ داری یہ قرار

پائی گئی کہ وہ سیاسی جہاد کے شعبوں میں مشغول ہو۔ امت کے دوسرے طبقہ کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ

وہ علم کے شعبوں کو سنبھالے اور اپنے آپ کو پوری طرح اس میں وقفت کرے۔ کیوں کہ وقتنے کیے

ب بغیر کا حقہ اس کے تقاضے پورے نہیں کیے جا سکتے۔

مفسرین نے مزید وضاحت کی ہے کہ علم کے شعبوں میں محنت کے لیے شہرناکوں تھلفت کی بات نہیں

ہے۔ یہ علم کی طاقت سے جہاد کرنا ہے جو معروف ہتھیاروں کے ذریعہ جہاد کرنے سے زیادہ اہم ہے :

فَأَمْرُوا أَن يَنْفِرُ مِنْ كُلِّ فَرْقَادِ مِنْهُمْ طَافِخَةً پس لوگوں کو حکم دیا گیا کہ ہر گروہ میں سے ایک جماعت

الجهاد و یقق سائشُهُمْ یتفقہوں حقیقتی کی تفہیم کر دیں رہ کر دین

جہاد کے لیے نکلے اور بقیہ لوگ مدینہ میں رہ کر دین

لَا يَنْقَطِعُوا عَنِ التَّفْقِيدِ الذِّي هُوَ الْجَهَادُ

سیکھیں تاکہ وہ علم دین سے کٹ نہ جائیں جو کہ زیادہ

الاکابر۔ إِذَا الْجَهَادُ بِالْحِجَاجِ اعْظَمُ أَثْرًا مَنْ

بڑا جہاد ہے۔ کیوں کہ دلائل کے ذریعہ جہاد کی تاثیر

الْجَهَادُ بِالنِّصَالِ (تفسیر الشفی، مدارک التزہل)

ہتھیاروں کے ذریعہ جہاد کے بہت زیادہ ہے۔

اس اصول کا مطلب مذہب اور سیاست کی تفہیم نہیں ہے۔ بلکہ خود اہل مذہب کے دو طبقوں

کے دائرة عمل کی تقسیم ہے۔ یہ تقسیم شریعت کے مذاع کے میں مطابق ہے۔

اسلام میں عورت اور مرد دونوں کا دین ایک ہے۔ دونوں یکساں طور پر دین کے مخاطب

ہیں۔ مگر عمل احتبار سے دونوں کے دائرة کار کو ایک دوسرے سے الگ رکھا گیا ہے۔ عورت کے ذمہ

نسن انسانی کی تربیت ہے، اور مرد کے ذمہ عمل انسانی کا انتظام۔ اسی طرح خود مردوں میں بھی مختلف

تلقیبات ہیں۔ اس میں سے ایک تقسیم یہ ہے کہ اسلام میں اہل علم اور اہل سیاست کے دائرة کار کو، بنیادی

طور پر، الگ کر دیا گیا ہے۔ اہل علم کا کام یہ ہے کہ وہ شخوص انسانی کے نگران بنیں۔ وہ ہر دوڑی شخوص انسانی

کی تشكیل کے لیے معلم کا کردار ادا کریں۔ تاکہ عقلیت بشری یا شاکر انسانی فطرت کی راہ سے بسلکتے نہیں پانے۔

جہاں تک عملی سیاست کا تعلق ہے۔ اس کے لیے مخصوص صلاحیتیں درکار ہیں۔ ہر آدمی عمل

سیاست کی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کر سکتا۔ انسانی صلاحیتوں کا یہی فرق ہے جس کی بنا پر رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے براصر امرت کو یہ اشارہ دیا کہ آپ کے بعد وہ ابو بکر صدیق رضوی کو امیر مقرر کرے۔ دوسری طرف آپ نے ابوذر غفاریؓ، ابو ہریثؑ اور حسان بن ثابتؓ کو یہ مشورہ دیا کہ تم بھی کوئی حکومتی عہدہ قبول نہ کرنا۔ پیدائشی صلاحیتوں کے اس فرق کی بسا پر کچھ لوگ حکومتی شعبوں کے لیے زیادہ موزوں ہوتے ہیں۔ اسلام کا فرشایہ ہے کہ سیاست کے میدان کو سیاسی صلاحیت رکھنے والوں کے حوالے کر کے بقیہ لوگوں کو اپنی صلاحیت کے اعتبار سے ملت کے مختلف شعبوں میں مصروف کر دیا جائے۔ اس کے مطابق، اہل سیاست کا کام اگر تنظیم انسانی ہے تو اہل علم کا کام تعلیم انسانی۔

اہل علم اور اہل سیاست کے درمیان تقسیم کار کے معاملوں کو حدیث میں اور زیادہ واضح کر دیا گیا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں، خاص طور سے کتاب الفتن کے تحت کثرت سے ایسی روایتیں آئی ہیں جن میں حکومتی برگاڑ کے ذیل میں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ اگر تم لوگ دیکھو کہ حکمران بگڑ گئے ہیں تو بھی تم حکمرانوں سے بگرا اونز کرنا۔ تم اپنی تلواروں کو توڑ دیتا مگر ایسا نہ کرنا کہ حکمرانوں کو نظام قرار دے کر ان سے لڑنے لگو۔

یہ دراصل مذکورہ تقسیم عمل کو آخری اور انتہائی صورت میں بھی باقی رکھنے کی تاکید ہے۔ یعنی علماء امرت کو نہ صرف عام حالات میں معلم انسانی کا کردار ادا کرنا ہے۔ بلکہ اس وقت بھی انہیں اسی تغیری کام میں لگے رہنا ہے جب کہ وہ دیکھیں کہ حکمرانوں کے اندر برگاڑ آگئی ہے۔ حکومتی نظام خواہ بظاہر لکھتا ہی بگڑا ہوا نظر آتے مگر علماء کو کسی بھی حال میں اپنے مفوہہ کام سے نہیں ہٹتا ہے۔

ایک حدیث

محمد بن عبد اللہ الخطیب التبریزی کی "مشکاة المصائب" میں کتاب الامارة والقضاء کے تحت ایک حدیث آتی ہے۔ اس کا مطالعہ اس ذیل میں بہت اہمیت رکھتا ہے :

عن یحیی بن ہاشم عن یونس بن ابی اسحاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
عن ابیہ قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: جیسے تم لوگ ہو گے ویسے ہی تمہارے اوپر کہاں تکونوں کذلک یوئی مر علیکم۔ حاکم بناے جائیں گے۔

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہے کونیت بشری، اور دوسری چیز ہے امارت بشری۔ کونیت بشری سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کی سوچ اور ان کی پسند و ناپسند کیا ہے۔ اور امارت بشری

مراد ہے کس انسانی جماعت کے اوپر سیاسی حاکم ہونا۔ کوئی نیت بشری کے اقتدار سے کوئی سماج جماعت
ہوگا اسی کے مطابق اس سماج کے درمیان سیاسی ڈھانچہ بنے گا۔

علماء ابدی طور پر کوئی نیت بشری کے نہ ہوں ہیں۔ ان کا کام یہ ہے کہ وہ ہر دور میں تکوین شعوریات کا
ہمان کی تصحیح کرتے رہیں۔ اور امارت انسانی یا سیاسی ڈھانچہ کی تولیت کا کام اہل سیاست کے
ہائے کردار ہے۔ زندگی کا نظام جب تک تقیم عمل کے اس اصول پر چلے گا، وہ درست رہے گا۔ اور
سیاسی تقیم عمل باقی نہ رہے تو زندگی کا نظام بھی بگڑ جائے گا۔ صحیح انسانی شاکل سے صحیح نظام حکومت
آمد ہوتا ہے اور فلسطین انسانی شاکل سے فلسطین نظام حکومت۔

زندگی میں کوئی نیت بشری کا معاملہ امارت بشری سے زیادہ اہم ہے۔ کوئی نیت بشری کی چیزیت
بادرکی ہے اور امارت بشری کی چیزیت اوپری ڈھانچہ کی۔ ظاہر ہیں لوگوں کو اگرچہ بنیاد کے مقابلوں میں
پوری ڈھانچہ زیادہ اہم دکھانی دیتا ہے۔ مگر حقیقت بین شخصیں ہمیشہ بنیاد کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا
ہے۔ سچا وجہ ہے کہ حکام کے مقابلوں میں علماء کا درجہ زیادہ ہے اور ان کا ثواب بھی زیادہ۔

آغاز اسلام کی اس ہدایت نے امت کے لیے آئندہ سرگرمیوں کا رخ متعین کر دیا۔ دو راول
اصحاب رسول کی ایک جماعت جہاد کے عمل میں مشغول ہوئی۔ اسی کے ساتھ ان کی دوسری جماعت،
ال کے طور پر عبد اللہ بن عباس، عبد اللہ بن مسعود، عبد اللہ بن عمر وغیرہ، علی اور دعویٰ شعبوں میں
پنچ آپ کو وقف کیے رہے۔

صحابہ کے بعد تابعین اور تبع تابعین میں بھی یہی تقیم قائم تھی۔ لوگ مختلف علمی میدان، تفسیر، حدیث،
اور ان سے تعلق رکنے والے دوسرے علمی شعبوں میں مشغول رہے۔ تقریباً ایک ہزار سال تک
ورست حال قائم رہی۔ یہ لوگ قرار، محمد بن خفیہ، علماء، دعاۃ، صوفیا، اور معلمین وغیرہ کی جمورت
کیوں کے ساتھ اپنے مخصوص میدان میں سرگرم عمل رہے۔

اسی تقیم کا کارکن تیجہ تھا کہ وہ عظیم علمی اور دعویٰ تاریخ بنی جو آج تک اسلامی کا
ناقیقی انشا تھا۔ اگر قیام کے تمام لوگ جہاد و قتال کی سرگرمیوں میں معروف ہو جاتے
تھیں طور پر اسلام کی تاریخ میں ایک خلاپیہ اہم جو قیامت تک کبھی روبارہ

نہ ہوتا۔

اور نگ زیب عالم گیر

میرا خیال ہے کہ یہ روایت سب سے پہلے قابلِ لحاظ درجہ میں اور نگ زیب عالم گیر (۱۶۰۴-۱۶۱۸) کے زمانہ میں ٹوٹی۔ اور نگ زیب اگرچہ شاہی خاندان میں پیدا ہوا۔ مگر وہ پورے معنوں میں ایک عالم تھا۔ اس کا باپ شاہ جہاں اس کے بجائے دارالشکوہ کو اپنا ذلیل عہد بناتا چاہتا تھا۔ اس طرح حالات اور نگ زیب کو اس طرف لے جا رہے تھے کہ وہ بادشاہ کا کردار ادا کرنے کے بجائے ایک عالم کا کردار ادا کرے۔ مگر وہ اس پر راضی نہ ہوا۔ اس نے ۱۶۵۸ء میں اپنے باپ شاہ جہاں کو تخت سے مزروعی کر کے آگرہ کے قلعے میں قید کر دیا۔ اور اپنے بھائی دارالشکوہ کو ۱۶۵۹ء میں قتل کر دیا۔ اس کے بعد تقریباً نصف صدی تک وہ مغل سلطنت کا مالک بنارہ۔

"تاج" سے فردومی کے باوجود اور نگ زیب کو پہت سے اعلیٰ وسائل حاصل تھے۔ اگر وہ بادشاہ کارول ادا کرنے کے بجائے عالم کارول ادا کرنے پر راضی ہو جاتا تو وہ اتنا بڑا کام کر سکتا تھا کہ آئندہ کئی صد بیوں تک آنے والے علماء کے لیے وہ مشغول راہ کا کام دیتا۔

اور نگ زیب کا زمانہ وہ زمانہ ہے جب کہ یورپ میں علم جدید کی بنیادیں رکھی گئیں۔ اس کے اثرات ہندستان کے سواحل تک پہنچنے لگتے۔ مگر اور نگ زیب اس سے بنی جبرہ کو قیامتیاست میں پڑا رہا۔ شاہ جہاں نے ہندستان میں تاج محل بنا لیا تھا۔ اور نگ زیب کے لیے موقع تھا کہ وہ ہندستان میں علم محل کی تعمیر کرے۔ لیکن کاسپیاں ایسا پر دارالشکوہ کے حوالے کر کے وہ ملک میں ایک ایجوکیشنل ایسا پر بناسکتا تھا۔ اگر اور نگ زیب ایسا کرتا تو وہ اسلام اور ملت اسلام کو اس سے بہت زیادہ فائدہ پہنچاتا جو اس نے سیاست اور نگ کے راستے سے پہنچانے کی کوشش کی مگر وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔

اور نگ زیب اگر "دکن" کا سفر کرنے کے بجائے "یورپ" کا سفر کرتا تو اس کو معلوم ہوتا کہ وہ ایک خلاف زمانہ عمل میں بتلا ہے۔ وہ شمشیر کی سیاست کے ذریعہ دنیا میں اسلام کو سپلنڈ کرنا چاہتا ہے۔ حالانکہ اب دنیا میں اس دور کا آغاز ہو چکا ہے جو بالآخر یہاں پہنچے گا کہ علم کی سیاست لوگوں کے لیے سرپنڈی کا ذریعہ بن جائے گی۔

بنظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اور نگ زیب اور اس زمانے کے دوسرے علماء مدرس یورپ

کی ترقیوں سے بے خبر تھے بلکہ وہ اس سے پہلے کی ان ترقیوں سے بھی ناواقف تھے جو مسلمان اپین کے دور حکومت (۱۳۹۲-۱۱) میں کرچکے تھے۔

اپین میں جب مسلم سلطنت کو زوال ہوا تو ہاں کے علماء اور سائنس دار اپین نے تکلیف بناہر جانے لگے۔ اس وقت ترکی میں طاقت ور مسلم خلافت (۱۹۲۳-۱۹۰۰) قائم تھی۔ اس زمانے میں غالباً کچھ مسلم سائنس دار بھاگ کر ترکی گئے۔ مگر وہاں کے دربار میں انھیں کوئی پذیرائی نہیں ملی۔ مسلم اپین کے زوال کے بعد ۱۵۲۴ء میں ہندستان میں محل سلطنت قائم ہوئی۔ مگر محل حکمرانوں کو بخیال ہیں آیا کہ وہ قدیم مسلم اپین کے کچھ سائنس دافنوں کو بلا میں اور علمی ترقی کا وہ کام ہندستان میں جاری کریں جس کا سلسلہ اپین میں منقطع ہو گیا تھا۔

تحقیق و ریسرچ کا یہ کام صرف حکومت کی سرپرستی کے تحت ہو سکتا تھا۔ چنانچہ ان سائنس دافنوں کو جب مسلم دنیا میں موافق نہیں لے تو وہ مغربی یورپ میں داخل ہونے لگے۔ وہاں انھیں بادشاہوں کی طرف سے سرپرستی حاصل ہوئی۔ یہی سبب ہے جس کی بنا پر اپین کے عمل کی شکیل مسلم دنیا میں از ہو سکی، وہ یورپ کی سر زمین پر ہوئی۔

اور نگز زیب بھی اپنی بے خبری اور سیاست سے فرمی عولیٰ دل چیز کی بنیاد پر اپنے زمانہ میں اس سخ پر کوئی اقدام نہ کر سکا۔ آخری مرحلہ میں سائنس کی ترقی کا کریڈٹ تمام تر یورپ کے حصہ میں چلا گیا۔ جدید دور کے تمام ابتدائی اسباب اور اس کے ابتدائی مظاہر اور نگز زیب کے زمانہ میں پیدا ہو چکے تھے۔ رواشیا گھری کے مقابلہ میں اسپرنگ دار (spring - driven) گھری کا ابتدائی ماڈل ۱۵۰۰ء میں جرمنی میں تیار کیا گیا تھا۔ جغرافیہ اور بحریات میں ترقی کی بنا پر پرتگال کا داسکوڈی گاہ ۱۳۹۹ء میں کالی کٹ کے ساحل پر اتر چکا تھا۔ اور اس طرح اس نے یورپ اور ایشیا کے درمیان بھری راستہ کھوں دیا تھا۔ ۱۵۱۰ء میں پرتگال نے گواپر قبضہ کر لیا اسپا برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی ۱۶۰۰ء میں بنی ادرفرنجی ایسٹ انڈیا کمپنی ۱۶۶۳ء میں قائم ہوئی۔ مگر اور نگز زیب اپنی سیاسی مشغولیت کی بنیاد پر ان واقعات سے بخوبی ہے۔ حالانکہ واقعات بتار ہے تھے کہ آئندہ نہ صرف بریٹش ہند بلکہ سارے عالم اسلام کے لیے جو سکر پیدا ہونے والا ہے وہ اپنی نوعیت میں خارج ہے نہ کہ داخل۔ (9/392)

اور نگزیب کی پیدائش سے بہت پہلے دوسری صدی عیسوی کے آخر میں چین میں پرنٹنگ کا ابتدائی طریقہ دریافت ہو چکا تھا۔ اس میں ترقی ہوئی تھی۔ یہاں تک کہ ۱۴۲۰ءیں ایک سڑم میں مشور ڈچ پرنس بنالیا گیا۔ پرنس اول لکڑی کے ہوا کرتے تھے۔ پھر لکڑی اور لوہے کے طبلے پریں بننے۔ یہاں تک کہ ۱۵۹۵ءیں انگلینڈ میں مثل پرنس تیار کیا گیا جو سکل طور پر لوہے کا بننا ہوا تھا (EB - 14/1054)

اور نگزیب کا کمال یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ خود اپنے ہاتھ سے کتابت کر کے قرآن تیار کرتا تھا۔ مگر اور نگزیب کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس سے پہلے ۱۴۲۵ءیں گوٹن برگ (Gutenberg) نے باہم کا پہلا فخر پرنس میں چھاپ کر عیانیت کے مشن کو دستکاری کے دور سے نکال کر شہنشہ دور میں داخل کر دیا ہے۔ اور نگزیب زیب اگر اس واقعہ کو جانتا تو اس کو معلوم ہوتا کہ قرآن کو ہاتھ سے لکھنے کے بجائے اس کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ تک میں پرنٹنگ پرنس کی صنعت قائم کرے۔ انگلینڈ کی کمپریج یونیورسٹی، ۱۵۱۵ءیں قائم ہوئی۔ پیرس یونیورسٹی اور آسٹریا یونیورسٹی انگلینڈ کی بھی پہلے بار ہوئیں صدی عیسوی میں قائم ہو چکی تھی۔ اور نگزیب کا زمانہ ستر ہویں صدی کا زمانہ ہے۔ اس کے لیے کرنے کا زیادہ اہم کام یہ تھا کہ وہ ہندستان میں ہر قسم کے علوم کی ایک ویسی یونیورسٹی بنائے۔ اسی طرح اس کو یہ کرنا تھا کہ وہ وقت کے موضوعات پر ریسرچ کے ادارے کھولے۔ وہ دہلی میں نیابیت الحکمت کھول کر یورپ کے علوم کے ترجیح کرائے۔ وہ علماء کی ایک اکیڈمی بنائے جو وقت کے علوم کو حاصل کرے اور اس پر ریسرچ کرے۔ مگر وہ اس قسم کا کوئی بھی کام نہ کر سکا۔ اور اس کی سادہ سی وجہی ہے کہ وہ تقسیم کا رپر ارضی نہیں ہوا۔

انسانیت نے ہبھ میں

یہ کوئی سادہ سی بات نہیں، بلکہ بہت زیادہ اہم بات ہے۔ اس کو ہر اُنی کے ساتھ سمجھنے کے لیے اس کو ہمیں ویسی تر دائرہ میں دیکھنا چاہیے۔

تقیم مشترکاً زمانہ دور میں انسان مظاہر فطرت کی پرستش کرتا تھا۔ یہ چیز سائنس (علوم فطرت) کے ظہور میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی۔ علوم فطرت کے ظہور کے لیے فطرت کی تحقیق ضروری تھی۔ اور فطرت چونکہ انسان کے لیے معمود کا درجہ رکھتی تھی اُسی لیے انسان فطرت کو پرستش کا موضوع بنائے ہوئے

نما۔ یہ مزاج فطرت کو تحقیق و تحریر کا موضوع بنانے میں مستقل رکاوٹ تھا۔ اسلام نے توحید کی بنیاد پر فکری انقلاب برپا کر کے سائنسی ترقی کا دروازہ کھولा۔ اس مسلم علوم سائنس (علوم فطرت) کی ترقی کے تین دور ہیں۔ (۱) فہری رکاوٹ (mental block)۔ توڑنا۔ یہ کام کر سے بقداد (۱۲۵۸ء۔ ۶۱۰) کے تاریخی مرحلہ میں ہوا۔ (۲) نئے فکر کی بنیاد پر ملت کی عملی تحقیق و تحریر کا دروازہ کھولنا۔ یہ کام مسلم اپسین کے دور (۱۳۹۲ء۔ ۱۱۷) میں شروع ہوا۔ (۳) اس آغاز کو آخری تکمیل تک پہنچانا۔ یہ کام سو ہویں صدی سے لے کر انیسویں صدی تک کے دور میں مغربی یورپ میں انجام دیا گیا۔

یہاں یہ سوال ہے کہ جو کام مسلم دنیا میں شروع ہوا اور اس نے مسلم دنیا میں اپنے دو مرحلے لے کر لیے، اس کی تکمیل یورپ میں پہنچ کر کیوں ہوتی۔ اس کی ایک نفسیاتی وجہ غالباً یہی تھی کہ بقداد اسلام سلطنت اور اپسین کی مسلم سلطنت کے درمیان اول روز سے رقبات پیدا ہو گئی۔ چنانچہ مدداد نے کبھی بجیدہ طور پر اپسین کے کام کو سمجھنے کی کوشش نہ کی۔ غالباً اسی رقبات کا یہ اثر تھا کہ مدستان یا کسی دوسرے ملک میں بھی کسی قابل ذکر شخصیت نے یہ نہیں سوچا کہ ہمیں اپسین کی ترقیوں سے اقتضیت ہو گئی اسے آگے بڑھانا چاہیے۔

یہ حقیقت اگر ہم عصر مسلم حکمرانوں اور مسلم رہنماؤں پر واضح ہوتی اور وہ لوگ اس سلسلہ میں است اقدام کرتے تو اپسین کے زوال کے بعد جو عالم بھاگ کر مغربی یورپ میں گئے، وہ اس بے بجائے مسلم دنیا کا رخ کرتے۔ اور پھر اسلام کے لائے ہوئے انقلاب کا تسلسل یورپ میں جاری نہ کے بجاے مسلم دنیا میں جاری ہو جاتا۔ اور جس طرح جدید سائنسی دور کا آغاز کرنے کا کریڈٹ اسلام کو حاصل ہے، اسی طرح اس دور کی تکمیل کا کریڈٹ بھی اسلام کو حاصل ہوتا۔ اس کے بعد ہمیں کی ضرورت نہیں کہ تاریخ کا نقشہ اس سے بالکل مختلف ہوتا جو موجودہ دور میں ہمیں نظر ہے۔

شاہ ولی اللہ دہلوی

علام کے کردار کا دوسرا دور وہ ہے جس کی علامت شاہ ولی اللہ دہلوی (۱۴۰۲ء۔ ۶۱۷) کو

روایا جاسکتا ہے۔ شاہ ولی اللہ نے بلاشبہ کچھ مفید کام کیے۔ مثلاً قرآن کا فارسی زبان میں ترجمہ،

درستہ رحیمیہ قائم کرنا، حدیث کے علم کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا، حجۃ اللہ الالب الفاء اور اس قسم کی دوسرا
قیمتی کتابوں کی تصنیف، وغیرہ۔

مگر اس قسم کے مختلف کام جو شاہ ولی اللہ نے انعام دیے، وہ سب اپنی نوعیت کے اعتبار سے
تحفظاتی کام ہیں نہ کہ قائدانہ کام۔ تحفظاتی خدمت بھی بلاشبہ ایک قابل قدر خدمت ہے مگر تحفظاتی کرونا
اور قائدانہ کرونا میں ایک بینا دری فرق ہے۔ تحفظ کا تعلق ماضی کی حفاظت سے ہے اور قیادت کا تعلق
مستقبل کی تعمیر سے۔ ان کی تصنیف حجۃ اللہ الالب الفاء قائدانہ نوعیت کی ایک خدمت قرار دی جا سکتی تھی پر بشرط
وہ اسم بائیسی ہوتی۔ مگر، جیسا کہ آئندہ وضاحت کی جائے گی، شاہ صاحب کی یہ کتاب اپنے اسلوب کے
اعتبار سے دینِ الہی کی صرف تقلیدی تبتیں ہے، وہ دینِ الہی کی عقلی تبتیں نہیں۔ ۰۰

تحفظاتی کرونا ادا کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ آدمی کو ماضی کے انشائے واقفیت پر مدد
جس چیز کو قائدانہ کردار کہا جاتا ہے اس کی ادائیگی کے لیے مستقبل کو دیکھنے والی نگاہ درکار ہے۔ کیونکہ
قائدانہ کردار ایک شخص حال میں ادا کرتا ہے اور اس کا نتیجہ ہمیشہ مستقبل میں برآمد ہوتا ہے۔ اسی لیے
تحفظاتی کرونا ادا کرنے کے لیے مقلدانہ تکر کافی ہو جاتا ہے۔ مگر قائدانہ کردار ادا کرنا اس کے بغیر
ممکن نہیں کہ آدمی زمانہ شناسی کے ساتھ اعلیٰ مجیدانہ صلاحیت کا مالک ہو۔

شاہ ولی اللہ نے اپنے بارہ میں لکھا ہے کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو دیکھا کہ میں
قائم الزمان ہوں۔ یعنی یہ کہ اللہ جب نظام خیر میں سے کسی چیز کو چاہتا ہے تو وہ مجھ کو اپنی مشائکو پورا
کرنے کے لیے آڑ کے طور پر استعمال کرتا ہے (رأیتُنِي فِي الْعَمَانِ قَائِمُ الزَّمَانِ۔ أَعُفُ
بِذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَدَ شَيْئًا مِّنْ نَظَامِ الْخَيْرِ جَعَلَنِي كَالْجَارِ حَكَمَةً لِإِلَّاثَامِ
مرادہ، فیوض المعرفین، صفحہ ۸۹)

میں بھتیا ہوں کہ شاہ ولی اللہ کا یہ خواب صحیح تھا۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ بالفعل
قائم الزمان ہیں۔ بلکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ انہیں قائم الزمان بننا چاہیے۔

شاہ ولی اللہ کی اہمیت یہ ہے کہ وہ دور جدید کے سرے پر پیدا ہوئے۔ وہ اس تاریخی مقام
پر نتے جہاں ان کے لیے مقدر تھا کہ وہ وقت کے دھارے کو سمجھیں اور عملِ اسلامی کی ایسی روایت
قائم کریں جو ان کے بعد صدیوں تک جاری رہ کر دور جدید کو از سر نو اسلام کا دربنا کے۔ مگر وہ

پانیہ تاریخی کردار ادا کرنے میں ناکام رہے۔ وہ قائم الزمان بننے کے مقام پر تھے مگر وہ عمل
ت قائم الزمان نہ بن سکے۔

شاہ ولی اللہ کا زمان اٹھارویں صدی کا زمان ہے۔ اس سے پہلے سترھویں صدی میں یورپ
میں اس نئے دور کا نیج پڑچکا تھا جو بالآخر پوری نوع انسانی کو اپنی پیش میں لے یعنی والا تھا۔ وہ
ذوق تقليید کو دور سائنس میں تبدیل کر دینے والا تھا۔ پہلے زمانہ میں (بشوں رو شرک) کائناتی واقعات
کی تشریح اعتقد اصطلاح میں کی جاتی تھی۔ اب تاریخ بشری میں بہلی بار ایک ایسا دور آ رہا تھا جب کہ
کائناتی واقعات کی تشریح خالص اسباب مادی کی اصطلاحوں میں کی جائے۔ دوسراۓ الفاظ میں
یہ کہ شاکر انسانی تبدیل ہو جائے۔ مگر شاہ ولی اللہ اپنے قریبی واقعات میں الجھ کر رہ گئے۔ وہ دور ریں
بنیاد پر اپنے عمل کی منصوبہ بندی نہ کر سکے جو کہ در اصل قائم الزمان ہونے کا تھا اس تھا۔

قدیم زمان میں واقعات عالم کی تشریح اعتقد اصطلاحوں میں کی جاتی تھی۔ یعنی جو کچھ ہو رہا ہے
اس کا کرنے والا خدا ہے۔ اسلام سے پہلے ظایہ شرک کے زمان میں اس اعتقد ای تشریح کے لیے کئی خداوں
کے حوالے دیے جاتے تھے۔ اسلام کے بعد ظایہ توحید کا زمان آیا تو صرف ایک خدا کی بنیاد پر تمام واقعات
عالم کی تشریح کی جانے لگی۔ موجودہ دور پوری معلوم تاریخ میں پہلا دور ہے جب کہ واقعات عالم کو
اسباب مادی کی اصطلاحوں میں بیان کرنے کی کوشش کی گئی۔

سو طوپیں صدی عیسوی میں مظاہر فطرت کی باقاعدہ علمی تحقیق کی جانے لگی۔ گلیلیو (۱۵۶۴-۱۶۳۲)
نے چاند اور سیاروں اور دوسرے مظاہر فطرت کا مطالعہ کیا۔ اس نے محسوس کیا کہ فطرت ایسے محکم
توڑا نہیں کے تھت عمل کرتی ہے جن کو یا ضیافتی صفت کے ساتھ بیان کیا جاسکتا ہے۔ اس نے ہماری فطرت
کی کتاب سب کی سب سیاضی کی صورت میں لکھی گئی ہے :

The book of nature is written in mathematical form (15/530)

چرچ کی مخالفت کے باوجود یہ طرز فکر بڑھتا رہا۔ سترھویں صدی میں کثیر تعداد میں یورپ میں
ایسے اہل علم پیدا ہوئے جو کائناتی واقعات کی مشینی تشریح کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ مثلاً
پوپ، نائیکو برہمی، کپسلر وغیرہ۔ یہ پروگرام جس کو عام طور پر مشینی فلسفہ کہا جاتا ہے، وہ سترھویں صدی
کا غالب موضوع تھا:

This program, known as the mechanical philosophy, came to be the dominant theme of 17th-century science. (14/387)

الٹھاروں میں صدی میں سرائزک نیوٹن نے اس فکری عمل کو تکمیل لیکے پہنچا دیا۔ نیوٹن کی کتاب، جس کا عنوان پرنپیا ہے، شاہ ولی اللہ کی وفات سے ۵، سال پہلے، ۱۶۸۷ء میں لاطینی زبان میں چھپی۔ اور ۱۶۹۱ء میں انگریزی میں شائع ہوئی۔ اپسیں، ثانی، اگر یوئی اور فورس کے موضوعات پر مختلف سائنسی ذہن پہلے سے کام کر رہے تھے۔ مگر اس معاملے میں کامیابی کا ہر ان نیوٹن کے حصہ میں آیا۔ نیوٹن نے اپنی کتاب (پرنپیا) میں یونیورسل گریویٹیشن کے قانون کو ریاضیاتی معقولیت (mathematical reasoning) کے ذریعہ آخری طور پر ثابت کر دیا۔ (6/888)

شاہ ولی اللہ کے زاد میں ایک نے اقلاب کے تمام آثار ظاہر ہو چکے تھے۔ اس انقلاب کا فکری پہلو اسلام کے لیے بے حد اہمیت رکھتا تھا۔ وہ حقائق کی تقییدی تشریح کو رد کر رہا تھا۔ اس کے نزدیک صرف وہ تشریح معقول اور مسلم حیثیت رکھتی تھی جو جدید سائنسی معاوروں پر کی گئی ہو۔ مگر شاہ ولی اللہ ان عالمی تبدیلیوں سے یکسر بے خبر رہے۔

شاہ ولی اللہ واقعات کو دہلی کے محدود دائرہ میں دیکھ رہے تھے اور ان کی اصلاح کی طلب تبدیل کر رہے تھے۔ اگر وہ سفر کرتے اور واقعات کا مطالعہ عالمی حالات کے پس منظر میں کرتے تو ان کو معلوم ہوتا کہ اصل مسئلہ ایک عالمی طوفان کا ہے نہ کہ اس نام نہاد سلطنت کو بچانے کی لامحاص کوشش کرنے کا جو اپنی عمر طبعی کو پہنچ کر "حکومت شاہ عالم از دہلی تا پالم" کا مصداق بن چکا ہے۔

شاہ ولی اللہ جس مغل سلطنت کو زندہ کرنا چاہتے تھے وہ اتنی دیکھ زدہ ہو چکی تھی کہ اس نے زندگی کی طاقت کمودی تھی۔ اس کے باوجود وہ اس سے بڑی بڑی امیدیں قائم کیے ہوئے تھے۔ التنبیمات الالہیۃ میں وہ شاہان وقت کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں بادشاہوں سے کہتا ہوں کہ اے بادشاہو ماں اس زمانے میں ملائی کی مرخی یا ہے کہ تم لوگ تواروں کو کچھ لولو، پھر ان کو نیام میں داخل نہ کرو جب تک اللہ مسلمانوں اور مشرکوں کے درمیان فرق نہ پیدا کر دے اور کافرůوں اور فاسقوں کے سرکش افراد اپنے کمزوروں سے نہل جائیں۔ وہ اپنے یہی کچھ کرنے کے قابل نہ ہیں اور یہی اللہ کا حکم ہے کہ تم ان سے جنگ کر دیہاں لیکے کفڑیاتی بزر ہے اور دین سب کا سب اللہ کے یہی ہو جائے۔

وأقول للملوك أيعا الملوك ، المرض عند الملأ إلا على فدا الزمان ان تسلوا السيف
ثم لا تفندوها حتى يجعل الله فرقانا بين المسلمين والمشركين - وحق يلخص مردة الكفار
والناس بضعفائهم لا يستطيعون لانفسهم شيئاً - وهو قوله تعالى : وقاتلوهم

(النور ، الجزء الاول ، صفحه ١٢٣ - ١٢٥)

یہ نام نہاد ملک اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ وہ صرف پالکی میں بیٹھ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ
جا سکتے تھے۔ دربی کے وزیر امداد الملک غازی الدین نے ۱۵۲۰ء میں شاہ ولی اللہ کے ہم عصر ہماں دار شاہ
کے لڑکے کو تخت پر بٹھایا اور اس کا لقب مالکِ گیر شانی رکھا۔ ۱۵۲۱ء میں افغان سردار احمد شاہ ابدالی دربی
کیا اور اس کو شہنشاہ ہند کا خطاب عطا کیا۔ مگر جلد ہی بعد ۱۵۲۹ء میں اسی وزیر نے عالم گیر شانی کو
قتل کر دیا جس نے چند رہاں پہلے اس کو تخت پر بٹھایا تھا۔ ایسی سلطنت کے سامنے جہاد بالسیف کی تقدیر
کرنا ایسا ہی ہے جیسے مُردہ لاشوں کے سامنے رجڑ پڑھنا۔

شاہ ولی اللہ کا یہ کارنامہ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے گرفت ہوئی مغل سلطنت کو سنبھالنے کی کوشش
کی۔ انہوں نے نواب نجیب الدولہ کے ذریعہ کابل کے احمد شاہ ابدالی کو ہندستان بولایا۔ اس نے
۱۵۴۱ء میں پانی پت کے مقام پر مرتضیوں کو شکست دے کر مغل سلطنت کے دشمن کو کچل دیا۔ مگر آخری تجھے
کے اعتبار سے دیکھئے تو یہ واقع شاہ ولی اللہ کے کارنامہ کے خاتمہ میں درج کرنے کے بجائے اس
قابل نظر آئے گا کہ اس کو ان کی بے بصیرتی کے خاتمہ میں لکھا جائے۔

حقیقت یہ ہے کہ اس معاملہ میں شاہ ولی اللہ کا زیادہ بڑا کارنامہ ہوتا کہ وہ ابن حندوں
(۱۳۲۰-۱۳۲۲) کے مقدمہ کے وہ صفحات پڑھتے جس میں ابن خلدون نے بجا طور پر لکھا ہے کہ کسی
سلطنت کی بھی اسی طرح عمر ہوتی ہے جس طرح افراد کی عمر ہوتی ہے ران الـ سـ دـ لـ تـ لـ عـ اـ هـ اـ رـ
طبیعتہ کی لالاخناء ، ۱۰۰) اور یہ کہ جب کوئی سلطنت بڑھا پے کی عمر کو ہسپخ جائے تو اس کے بعد
اس کا اٹھنا ممکن نہیں ہوتا ان العزم إذا نَلَنَ بالله وللة لا يرتفع ، ۲۹۳)

شاہ ولی اللہ اگر اس راز کو جانتے تو انہیں معلوم ہوتا کہ ان کے کرنے کا اصل کام یہ نہیں ہے کہ
وہ اس دیکھ زدہ ستون کو بے فائدہ طور پر سنبھالنے کی کوشش کریں جس کے لیے گرتا خود قدرت کے
قانون کے تحت مقدر ہو چکا ہے۔ بلکہ ان کا کام یہ ہے کہ وہ نئے حالات کو مجھیں اور پھر سے امت کی

نئی تاریخ بنانے کی کوشش کریں جس کے عین مرے پر وہ کھڑے ہوئے ہیں۔
نوآبادیاتی دور کے علماء

علماء کے عمل کا تمیز اور وہ ہے جو، ہماری تقسیم کے مطابق، شاہ عبدالعزیز دہلوی (۱۸۹۲) سے شروع ہوتا ہے۔ اور گنگ زیب سے لے کر سید احمد بریلوی تک مسلم ہناؤں کے ذہن پر مر پڑا اور جاث اور سکھ کا مسئلہ چھایا رہا۔ وہ ان داخلی طاقت涓وں کے خلاف براہ راست یا بالواسطہ جاد میں مشغول رہے۔ بظاہر انہیں اس کا کوئی شعور نہ تھا کہ اصل خطرہ باہر کی نوآبادیاتی قوموں سے ہے جو جدید قوتوں سے مسلح ہو کر نکلی ہیں اور ہندستان تحریت ساری مسلم دنیا عالم جن کی زد میں آچکی ہے۔

یہ مغربی طاقتیں سواحل کے راستے سے داخل ہو کر ہندستان میں اپنا نفوذ بڑھاتی رہیں۔ یہاں تک کہ ۱۸۰۳ء میں دہلی کا برائے نام بادشاہ براہ راست برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کی سرپرست protection میں آگیا۔ (۹/۹۳۶)

جب ثوبت یہاں تک پہنچ گئی اس وقت مسلم علماء کو اس کی خبر ہوئی۔ اس کے بعد ۱۸۰۴ء میں شاہ عبدالعزیز دہلوی نے یہ فتویٰ صادر کیا کہ ہندستان دارالحرب ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ فوجی جو دولت کے مالک ہیں، انہوں نے دہلی اور کابل کے درمیان فساد برپا کر دیا ہے :

فِإِنَّ أَرْبَى الْأَفْرَنْجِ اصحابُ شَرْقٍ لَقدْ أَفْسَدُوا مَا بَيْنَ دَهْلِي وَ كَابُولِ
اس کے بعد علماء کا اسی مگر ادا بھریزوں سے شروع ہو گیا۔ افریقہ میں وہاں کے علماء اور مصلحین کا مکار اور فرسیوں کیا تھا ہوا۔ مگر اس مکار کے لیے اول دن سے ہی یہ مقدر تھا کہ وہ ناکام ہو کیوں کریے علماء اس مسئلہ کو بعض اہل فساد کا پیدا کر دہ مسئلہ بھجوڑ ہے تھے۔ حالانکہ باعتبار واقعہ وہ اس بات کا نقیب تھا کہ اہل مغرب جدید طہی اور عملی قوتوں کے مالک ہو گئے ہیں اور اسکا بنا پر انہوں نے اہل شرق کے اوپر فیصلہ کن خویت حاصل کر لی ہے۔ مثلاً ۱۸۵۲ء میں برٹش انڈیا کمپنی نے ہندستان میں ریلوے سے لائن بچھانا شروع کر دیا تھا۔ مگر، ۱۸۵۱ء میں جہاد آزادی کے لیے اٹھنے والے علماء کو اس زمانی تبدیلی کی خبیر نہ ہو سکی۔

یہ مکار اگلی اور اصولی دونوں پہلوؤں سے نادرست تھا۔ عملی اعتبار سے وہ اس لیے درست نہ تھا کہ یہ لوگ ایک ایسی جگہ لڑنے کے لیے اٹھ کر رہے ہوئے تھے جو اہل اسلام کی یہ طرف ہلاکت کے موکسی

اور انہام تک پہنچنے والی نہ تھی۔ کیونکہ علماء کے پاس صرف روایتی ہتھیار تھے۔ اور دوسری طرف اہل مغرب سائنسیک ہتھیاروں سے مسلح تھے۔ گویا اب دونوں فریقوں کے درمیان امنی کی طرح صرف کیفیتی فرق نہ تھا، بلکہ ان کے درمیان کیفیتی فرق پیدا ہو چکا تھا۔ اور جہاں اس قسم کا فرق پایا جائے وہاں جگہ بکراو چیزیں نہ اسلام کے مطابق ہے اور نہ عقل کے مطابق۔

اصولی اعتبار سے، علماء کا یہ کام ہی نہیں کروہ سیاسی امور میں عملی طور پر اپنے آپ کو الیحائیں۔ ان کا عملی سیاست میں الجھنا صرف اس قیمت پر ہو گا کہ دوسرے نبیارہ بنیادی کام ہونے سے رہ جائیں۔ علماء کو ہمیشہ تقیم کار کے اصول پر قائم رہنا چاہیے۔ یعنی وہ سیاسی نزاکات کو اہل سیاست کے حوالے کرتے ہوئے اپنے آپ کو ہمہ تن علمی، دعوتی، اصلاحی اور تعمیری کاموں میں لگا دیں۔ علماء اسی کے اہل ہیں، اور ان کو ایسا ہی کرنا چاہیے۔

دور اول میں خلافت راشدہ کے آخری زمانے سے لے کر بنو ایمہ اور بنو حجاج کے آخری زمانہ تک تقریباً چھ سو سال کی مدت ہے۔ اس پوری مدت میں مختلف صورتوں میں داخلی سیاسی لڑائیاں جاری رہیں۔ مگر ہی وہ مدت ہے جب کہ ان تمام علوم کی تدوین عمل میں آئی جن کو اسلامی علوم کہا جاتا ہے۔ سیاسی انتشار کے باوجود یہ تعمیری کام کیوں کر ممکن ہوا۔ اس کی واحد وجہ یہ تھی کہ علماء اور اہل علم کا طبقہ ہمیشہ عملی سیاست سے الگ رہ کر علمی کاموں میں معروف رہا۔ اس حدودتی نے اہل علم کو یہ موقع دیا کہ سیاسی بگار کے باوجود وہ اپنی قوتوں کو بچا کر کیسوئی کے ساتھ علوم کی ترتیب و تدوین کا عظیم کام انہام دے سکیں۔

اسی طرح اسپین (اندلس) کی مسلم سلطنت کی مدت تقریباً آٹھ سو سال تک پھیلی ہوئی ہے۔ یہاں بھی اس پوری مدت میں سیاسی بکراو اور سیاسی بناوتوں کے سلسلے جاری رہے۔ اس کے باوجود ہیں اسی دور میں مسلم علماء اور اہل علم نے جو علمی اور سائنسی خدمات انہام دیں وہ حیرت ناک حد تک عظیم ہیں۔ دوبارہ اس کی وجہ یہ تھی کہ علماء اور اہل علم نے اپنے آپ کو عملی سیاست کے ہنگاموں سے دور رکھا اور ہمہ تن علوم و فنون کی خدمت کرنے میں مشغول رہے۔

جدید نوآبادیاتی دور میں اگرچہ بیشتر علماء کا یہ حال رہا کہ وہ اپنے اصل کام (تعمیر شہور) کو چوڑ کر بے قائدہ قسم کے سیاسی جہاد میں مشغول ہو گئے۔ تاہم اس دور میں چند علماء ایسے نظر آتے ہیں جنہوں نے اس حقیقت کو سمجھا کہ علماء کا کام رضاۓ جگہ طویل میں اپنی قوت ضائع کرنا نہیں ہے۔ بلکہ سیاست نے الگ رہ کر

تغیری شعبوں میں اپنی طاقت لگاتا ہے۔ مگر ایسے عمار اتنی زیادہ اقلیت میں سنت کروہ صورت حال کی تبدیلی میں کامیاب نہ ہو سکے۔

۱۸۵۶ کے زمان میں جب عمار نے انگریزوں کے خلاف جہاد بائیف کا فیصلہ کیا، اس وقت دیوبند میں ایک بڑے عالم مولانا شیخ محمد صاحب تھے۔ مولانا کی رائے دوسرے عالموں کے بالکل برخلاف تھی۔ ان کا ہنا تھا کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرنے ہم مسلمانوں پر فرض تو درکار، موجودہ احوال میں جائز ہی نہیں۔ چنانچہ دیوبند میں ایک متساوی اجتماع ہوا۔ اس میں دوسرے عمار کے ساتھ مولانا رشید احمد گنگوہی اور مولانا محمد قاسم نانو توی بھی شریک تھے۔ اس واقعہ کی تفصیل بتاتے ہوئے مولانا حسین احمد مدینی رہ لکھتے ہیں :

”اس اجتماع میں جہاد کے مسئلہ پر گفتگو ہوئی، حضرت نانو توی نے ہمایت ادب سے مولانا شیخ محمد صاحب سے پوچھا کہ حضرت کیا وجہ ہے کہ آپ ان دو شان دین و وطن پر جہاد کو فرض بلکہ جائز بھی نہیں فرماتے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے پاس اسلام اور آلات جہاد نہیں ہیں۔ ہم بالکل بے سرو سامان ہیں۔ مولانا نانو توی نے فرض کیا کہ کیا اتنا بھی سامان نہیں ہے جتنا کہ فروہ بدر میں تھا۔ اس پر مولانا شیخ محمد صاحب نے سکوت فرمایا۔“ نقش حیات، ۱۹۵۳، جلد دوم، صفحہ ۳۲

یہ مقابل بلاشبہ غلط تھا۔ بدر کے موقع پر دونوں طریقوں کے درمیان جو فرق تھا وہ صرف کیا تھا۔ یعنی ایک طرف ۱۸۷۲ آدمی تھے اور دوسری طرف ایک ہزار آدمی۔ اس کے برخلاف ۱۸۵۶ میں دونوں طریقوں کے درمیان کیفیاتی فرق پیدا ہو چکا تھا۔ یعنی ایک طرف دستی ہتھیار تھے اور دوسری طرف دور مارہتھیار۔ ایک طرف جدید سائنسی طریقوں سے مسلح فوج تھی اور دوسری طرف رواہی طریقوں کی مالی جماعت۔ ایک طرف بڑی طاقت کے ساتھ بھری طاقت کا زور شامل تھا اور دوسری طرف صرف بڑی طاقت محدود طور پر موجود تھی۔ ایک گروہ کی پشت پر نئے عزائم سے بھر پور ایک قوم تھی اور دوسرے گروہ کی پشت پر صرف ایک زوال یافتہ قوم کے کچھ افراد تھے۔

اس وقت کے عمار، جو اس بغاوت میں قائد اڈ کردار ادا کر رہے تھے، انھیں اس فرق کا کوئی اندازہ نہ تھا، اگر وہ اس فرق سے پوری طرح واقع ہوتے تو وہ ہے کہ موجودہ حالات میں ہمارے یہے صبر ہے نہ کہ جہاد۔ ہمارے یہے مزدوری ہے کہ ہم صبر پر قائم رہ کر تیاری کریں، نہ کہ بے وقت ہرجن اقدام

ز کے اپنی تباہی میں مزید اضافہ کا سبب بن جائیں۔

اس سلسلہ میں علمار کی بے خبری کی ایک بہت سالی مثال یہ ہے کہ مغربی قومیں جدید مواصلات (communication) کے دور میں داخل ہو چکی تھیں۔ مگر معلوم ریکارڈ کے مطابق، علماء اس زمانی نہ ملی مطلقاً بے خبر تھے۔ یہ واقعہ ہے کہ ۱۸۵۱ء کی جنگ میں جدید مواصلاتی نظام نے فیصلہ کرنے کے دوار اور ایسا جو اس سے پہلے ۱۸۵۱ء میں انڈیا میں لایا جا چکا تھا۔ مگر علماء اور ان کے تمام ساتھی اس سے اس درجہ بے خبر تھے کہ ان کے پیدا کردہ پورے طریقہ میں اس کا ذکر تک موجود نہیں۔

ہیرنشا ایک بڑش رائٹر ہے۔ اس نے اپنی ایک کتاب میں بہت سی واقعاتی مثالوں سے بتایا ہے راگر ایسا زہوتا تو تاریخ کچھ اور ہوتی۔ اس کی کتاب کا نام ہے تاریخ کے اگر:

F.G.C. Hearne shaw, The Ifs of History.

اس کتاب کے ۱۹ اویں باب کا عنوان یہ ہے ————— اگر خمسینات میں بر قی ٹیلی گراف نہ ہوتا ہیرنشا ایک کتاب میں بہت سی واقعاتی مثالوں سے بتایا ہے (If there had been no Electric Telegraph in the fifties)

کے تحت مصنف نے جو کچھ لکھا ہے اس کا ایک حصہ یہ ہے :

(۱۸۵۶ء کی بنادوت کے وقت) انڈیا میں بڑانی فوجیوں کی تعداد صرف ۳۵ ہزار تھی۔ جب کہ سندھستانی سپاہیوں کی تعداد ڈھانی لاکھ سے زیادہ تھی۔ گنجائی کی وادی میں مقیم ایک بڑی روپیہ میں کے کسی بھی شخص کو، خواہ وہ فوجی ہو یا غیر فوجی، کوئی چیز بچانیں سکتی تھی۔ کوئی بھی چیز، کم از کم عارضی طور پر، بنگال

There were in India at the time only 45000 British troops as against more than 250,000 sepoys. Nothing could have saved the lives of any of the British residents, whether military or civilian, in the whole of the Ganges valley, nothing could have prevented the extinction – at any rate temporarily, of the British dominion in Bengal and Oudh, if the mutiny had occurred before the installation of the telegraph. By means of the wire (which the mutineers were not able to cut) the Governor General, Lord Canning, sent for reinforcement from England. Again by telegrams Lord Canning was able to get, and get quickly, invaluable contingents from Madras, from Bombay, London, and from Burma. Further, he was in a position to recall a powerful force under General Outram that had been sent on service into Persia. But most decisive of all was his ability to intercept, by an urgent and peremptory message sent by wire to Singapore, a completely equipped expeditionary army of 5000 men which was just on its way under Lord Elgin to deal with trouble in China. From Cape Colony, too, were brought, in response to a cabled appeal, two batteries of artillery, stores, horses and £ 60,000 in gold (pp. 156-157)

اہد اودھ میں برطانی غلبہ کے خاتمہ کو روک نہیں سکتی تھی، اگر ایسا ہوتا کہ یہی گرام کا نظام قائم کی جانے سے پہلے بغاوت ہو جاتی۔ تاریخ (جس کو باقی کاٹ نہیں کئے تھے) گورنر جنرل، لارڈ کیننگ نے انگلینڈ سے مزید فوج طلب کی۔ اس کے علاوہ لارڈ کیننگ کے لیے ٹیلی گرام ہی کے ذریعہ یہ ممکن ہے کہ وہ تیزی کے ساتھ مدراس سے، بمبئی سے، لندن سے، برما سے قبیل فوجی دستے حاصل کر سکیں جو ٹیلی گرام ہی کے ذریعہ انھیں یہ موقع لارکہ دہ ایران سے اس طاقت ور فوج کو داپس بلا سکیں جو جنرل اور ٹرام کی قیادت میں وہاں پہنچی ہتھی۔ مگر ان سب سے زیادہ فیصلہ کن یہ بات تھی کہ ٹیلی گرام کے ذریعہ ان کے لیے یہ ممکن ہوا کہ وہ ایک فوری اور واجب التعییل پیغام سن گا پوری سیچ کو ساز و سامان لیں اس پانچ ہزار آدمیوں کی مسلح فوج کو درمیان میں مداخلت کر کے بلا سکیں جو لارڈ ایگن کی قیادت میں چینا جا رہی تھی۔ مزید یہی گرام ہی کے ذریعہ کیپ کالونی سے توب خانہ کی دو بیڑی، اسٹور، گھوڑا اور ساٹھ ہزار پونڈ سو نے کی صورت میں منگوانے گئے۔

ایک صحیح اداز

سید رشید رضا (۱۹۲۵-۱۸۶۵) دارالعلوم مدودہ العلماء کائنتوں کی دعوت پر ۱۹۱۲ء میں ہندستان آئے تھے اس کے بعد وہ دیوبند کے دارالعلوم میں گئے۔ وہاں انہوں نے اساتذہ اور طلبہ کے سامنے مرتی میں ایک مفصل تقریر کی جو دارالعلوم دیوبند کی رواداد (۱۹۱۲ء، ۱۳۲۰) میں درج ہے۔ اس تقریر میں انہوں نے علماء کو اشاعت اسلام کے کام کی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا:

”اسلام کی اشاعت کا دوسرا حصہ بت پرستوں سے متعلق ہونا چاہیے۔ ہندستان میں یکڑوں قسم کے بت پرست ہیں۔ یہاں بتوں کو پوچھنے والے، درختوں اور پتھروں کو پوچھنے والے، چاند، سورہ، ستاروں اور دوسری لمحیات کو پوچھنے والے موجود ہیں۔ اگر ہمارے پاس دعاۃ اور مبلغین کی ایک مضبوط جماعت موجود ہو تو ان لوگوں میں اسلام کی اشاعت اس تدریس رحمت کے ساتھ ہو سکتی ہے جو اس وقت ہمارے تصور میں بھی نہیں آسکتی۔“ میں عیسائیوں کے مقابلہ میں بہت زیادہ کامیابی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک خاص بات اور ہے جو ہر ایک دورانی شاہزادہ مسلمان کی توجہ کے لائق ہے۔ اور وہ یہ کہ ہندستان میں مسلمانوں کی تعداد غیر مسلموں کے مقابلہ میں اتنی کم ہے کہ ان کی بستی کو اس ملک میں ہمیشہ معرض خطر میں بھگنا چاہیے۔ اگریزی حکومت جو عقل و عدل کی حکومت ہے، اس نے غیر مسلموں اور مسلمانوں کے درمیان موازنہ قائم رکھا ہے۔ اگر کبھی

موازنہ ثبوت جائے تو آپ خیال کر سکتے ہیں کہ کیا نتیجہ ہو گا۔ غالباً یہاں کے مسلمانوں کا وہی حشر ہو گا جو انہیں کے ملکوں کا ہوا تھا۔ اس لیے ہم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو ان شبہات کو رفع کرے جو اسلام پر یہی کیے جاتے ہیں۔ یہ شبہات جو موجودہ زمانے کے علوم کی بنیاد پر پیدا ہوئے ہیں ان کا دور کرنا بہت ضروری ہے۔ مگر ان شبہات کا رفع کرنا بغیر فلسفہ جدید کی واقفیت کے نامکن ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس ماععت کے اخلاقی فلسفہ جدید کے اہم مسائل سے واقفیت رکھتے ہوں (المجعیۃ ولکیا، دہلی، ۱۹۰۶ء، فرمودہ) یہ بلاشبہ ایک صحیح رہنمائی تھی۔ مگر ہندستانی ملار میں سے کوئی ایک بھی ایسا نظر نہیں آتا جس نے اس رہنمائی کو لائی توجہ کیا ہے۔ اس طرح کی اور بھی بعض انفرادی مثالیں ہیں جب کہ کسی صاحب بصیرت شخص نے ملکہ کو اس طرف دلائی کر وہ بے قائدہ سیاست کو چھوڑ کر نتیجہ خیز عمل میں اپنا قوتیں لگائیں مگر ایسے اخلاقی نزارے موثر نہ بن سکی اور علماء کا قافلہ مسلسل اپنی تباہ کن سیاست کی طرف چلتا رہا۔

غالباً اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ آخری صدیوں میں ملکہ نے تنقید کو ایک مبغوض چیز کو جیسا کہ ملکہ میں تنقید اتنی غیر ایم تھی کہ وہ اس پر سمجھیگی کے ساتھ غور کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے تھے۔ ملکہ کی بصیرت صرف یہ چنانی تھی کہ ہمارے "اکابر" کا طریقہ یہی تھا۔ مذکورہ قسم کی انفرادی رأیوں چوکڑا کا برکے اور تنقید کے ہم معنی نہیں، اس لیے پہلے ہی مرتضیٰ وہ قابل رد قرار پا گئیں۔ ملکہ کے لیے یہ ناقابل ہم تھا کہ وہ کابر کے طریقہ پر نظر ثانی کریں اور اس کو غلط بتا کر اپنے لیے کوئی اور طریقہ اختیار کریں۔

اس کی ایک مثال سید احمد بریلوی کی تاریخ میں ملتی ہے۔ ان کے ماتحتیوں اور سرپرہوں میں ایک ولانا میر محبوب طی (۱۲۸۰ھ۔ ۱۸۰۰ء) تھے۔ ان کو سید احمد بریلوی یہ سے اس وقت اختلاف پیدا ہوا جب انہوں نے پنجاب کے سکھ راجہ کے خلاف جہاد کا فیصلہ کیا۔ سید صاحب نے یہ فیصلہ کشف کی بنیاد پر کیا تھا۔ محبوب طی صاحب نے کہا کہ "اے میر سے سید، جہاد کا مدار مشورہ پیر ہے (مزکر کشف اور نواب پر)"

اس کے بعد سید صاحب کے قافلہ کے لوگ محبوب طی صاحب کے سخت مخالف ہو گئے۔ سید احمد بریلوی نے اس کے جواب میں ان سے کہا "تمہاری اطاعت خاموشی کے ساتھ نہنے کی ہونی چاہیے، ایسی اموشی جیسی اس پہاڑ کی ہے جو میرے سامنے کھڑا ہے۔" محبوب طی صاحب نے اس کو نہیں مانا اور سید صاحب اساتھ چھوڑ کر اپنے وطن کی طرف جانے کا فیصلہ کیا۔ سید صاحب نے کہا : من ذہب من عن دی الی

وطنہ مُراجعاً فقد ذہب ایمانہ (جو شخص میرے پاس سے اپنے وطن کی طرف لوٹ جائے گا اس کا ایمان اس سے چلا جائے گا) مولانا اسماعیل دہلوی اور تقویۃ الایمان، از مولانا شاہ ابو الحسن زید قادری

صفحہ ۸۶-۸۷

اسلام میں اجتنابی امور کی بنیاد شوری پر رکھی گئی ہے (الشوری ۲۸) شوری صحت فیصلہ کی ضمانت ہے۔ مگر صحیح شوری کے لیے تنقید اور اختلاف رائے کا ماحول ہونا ضروری ہے۔ موجودہ زمانہ کے علماء کے درمیان چونکہ تنقید اور اختلاف رائے کا ماحول نہیں، اس لیے ان کے بیہاں حقیقی شوری کا وجود بھی نہیں۔

ہندستان میں مسلمانوں کے طاوہ جو قوم آباد ہتی، وہ شرک کو مانتے والی قوم تھی، شرعی نقطہ نظر سے بیہاں علماء کی پہلی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ ان مشرکین کے درمیان ایک ایسی تحریک اٹھائیں جس کی بنیاد تردید شرک اور اثبات توحید پر قائم ہو۔ اور یہ کام ہرگز مناظر انداز میں نہ ہو بلکہ موعظت حسنه کے انداز میں ہو۔ وہ نصیح اور مانت کے جذبہ کے تحت اٹھائی گئی ہو۔ لیکن پچھلے تین سو سال میں کوئی تحریک تو درکار رکھی ایک عالم بھی ایسا نظر نہیں آتا جو اس کام کا واقع شور رکھتا ہو اور اس کام کی اہمیت کی طرف لوگوں کو متوجہ کرے۔

یہ کام اتنا زیادہ اہم ہے کہ اس کو چھوڑنے کے بعد پوری کی پوری قوم اللہ کی نظر میں بے قیمت ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ اس کام کو چھوڑ کر دوسرا جو کام بھی کیا جائے گا۔ وہ جبط اعمال کا شکار ہوتا رہے گا۔ وہ کبھی مسلمانوں کی عزت اور سرفرازی کا سبب نہیں بن سکتا۔

اور نگز نیب عالم گیر کے زمان میں یہ اہل شرک مسلمانوں کے لیے دعیت کی چیزیت رکھتے تھے، ان کے درمیان رعوت تو حید کا مصلحانہ کام نہیاں کے ساتھ کیا جاسکتا تھا۔ مگر علماء اس موقع کو استعمال نہ کر سکے۔ انہوں نے مشرک قوم کو شرک کی گزاری سے نکالنے کے لیے کوئی حقیقی محنت انہیم نہیں دی۔

انیسویں صدی کے درست سے باقاعدہ طور پر انحریزی حکومت کا دور شروع ہوا۔ انحریزوں نے اپنی یہی مصلحت کے تحت ملک کے مختلف فرقوں کے درمیان موازنہ قائم کرنے کی پالیسی اختیار کی۔ اس کے نتیجے میں اہل اسلام اور اہل شرک کی چیزیت برابر برابر کی ہو گئی۔ اس دوسرے دور میں بھی دعویٰ کام کے موقع پوری طرح موجود تھے۔ مگر علماء نے اب بھی ان موقع کو استعمال نہیں کیا۔ اس کے بیکن انہوں

نے یہ کیا کہ کچھ عمار آزادی ہند کے جنڈے کے نیچے جمع ہو گئے اور کچھ علامہ تقیم ہند کے جنڈے کے نیچے جبکہ یہ دونوں ہی تحریکیں مذکورہ دعوت توحید کے لیے قاتل کی چیزیت رکھتی تھیں۔

مذکورہ دونوں تحریکیں اپنے مقصد میں کامیاب ہوئیں۔ ایک طرف بھارت کی صورت میں ایک آزاد ملک ہمور میں آیا اور دوسری طرف پاکستان کی صورت میں مسلمانوں کا قومی ہوم لینڈ۔ مگر دونوں ہی ملکوں میں مذکورہ دعوت کے موقع کم سے کمتر ہو گئے۔ بھارت میں اس لیے کہ یہاں اہل شرک نے اکثریت کی بنابری قابل چیزیت حاصل کر لی اور مسلمان مغلوبیت کی حالت میں چلے گئے۔ پاکستان میں اس لیے کہ دو قومی لفڑی کے نتیجہ میں اہل شرک کی چیزیت ایک جنین گردہ کی ہو گئی نہ کہ مدھو گردہ کی۔

یہ بلاشبہ ایک ناقابل معافی جرم ہے جو عمار کی برادر اسٹریمنی کے تحت کیا گیا ہے۔ اس کی واحد تلافی یہ ہے کہ کھلے دل سے غلطی کا اعتماد کیا جائے اور حال کے موقع کو استعمال کرتے ہوئے اب وہ کام شروع کر دیا جائے جو ماضی کے موقع میں انعام نہ دیا جاسکا۔

دوسری عالمی جنگ کے بعد

علام کی غیر ضروری سیاسی اور حربی سرگرمیاں تو مغربی قوموں کو زیر نہ کر سکیں۔ تاہم خود مغربی قوموں کی باہمی جنگ جو دوسری عالمی جنگ (۱۹۳۹-۱۹۴۵) کی تھی ہے۔ اس نے ان قوموں کو فوجی اعتبار سے اتنا کمر درکر دیا کہ ان کے لیے بیرونی ملکوں پر اپنے سیاسی قبضہ کو باقی رکھنا سخت دشوار ہو گیا۔ چنانچہ انہوں نے بیسویں صدی کے وسط میں ان ملکوں سے اپنا سیاسی قبضہ ہٹالیا۔ اگرچہ ان کا تہذیبی اور اقتصادی فلبری پیر بھی ان ملکوں پر باقی رہا۔

اس کے نتیجہ میں ایشیا اور افریقہ میں تقریباً پچاس مسلم ملک وجود میں آگئے جو سیاسی اعتبار سے آزاد چیزیت رکھتے تھے۔ یہاں عمار کو ہی کردار ادا کرنا تھا جو اسلام میں ان کے لیے مقرر کر دیا گی تھا۔ یعنی سیاست کے حوالے کر کے وہ اپنے آپ کو اشاعت طوم، دعوت و تبلیغ اور اصلاح و تغیر کے کام میں لگائیں۔ مگر دوبارہ انہوں نے یہ کیا کہ غیر ضروری طور پر وہ سیاست کے میدان میں کو دپٹے۔

پہلے ان کی سیاست کا عنوان "آزادی" تھا۔ اب انہوں نے اپنی سیاست کا عنوان قانون اسلامی کے نفاذ کو بنایا۔ مصر، پاکستان، سودان، شام، الجزاير، اندونیشیا، وغیرہ مختلف ملکوں میں عمار

نے ایسی جماعتیں بنائیں جن کا مقصد اسلامی قانون کی حکومت قائم کرنا تھا۔ اس سیاست نے دوبارہ مسلم ملکوں کو میدان کارزار بنایا، اس فرق کے ساتھ کہ پہلے اگر مسلم علماء کاٹکرا اور غیر مسلم قوموں سے تھا تو اب ان کاٹکرا اور خود مسلمانوں کے ایک طبقہ کے ساتھ بیش اگیا۔ مسلم جماعتیں ہر ٹک میں اپوزیشن کا کروار ادا کرنے لگیں۔

علماء کی ان کوششوں سے ایسا توہین ہوا کہ کسی مسلم ٹک میں خالص شرعی انداز کی حکومت و تام ہو جائے۔ البتہ اس کا یہ نتیجہ ضرور ہو اک مسلمان دو گروہوں میں بٹ کر آپس میں لڑنے لگے۔ پہلے اگر غیر مسلم طاقت مسلمان کو مار پتی تو اب خود مسلمان ایک دوسرے کو مارنے لگے۔ اس کا مزید نقصان یہ ہوا کہ ہر جگہ مسلم معاشرہ تحریکی سرگرمیوں کا اکھاڑا بن گیا۔

مسلم ملکوں کے علماء اگر یہ کرتے کہ وہ عملی سیاست سے الگ رہ کر مسلمانوں کی اصلاح کرتے۔ ان کے اندر اسلام کی روح بیدار کرتے۔ جدید معیار پر اسلامی لٹرچر تیار کر کے مسلم نسلوں کے اندر اسلام کی طلب پیدا کرتے۔ اگر وہ اس قسم کے کام کرتے تو وہ زیادہ بہتر طور پر اسلامی حکومت کے قیام میں مددگار ہو سکتے تھے۔ وہ جب مسلم معاشرہ کو اسلامی معاشرہ بنادیتے تو اس کے بعد البا کے اندر سے جو نظام حکومت اپھرتا وہ یقیناً اسلامی نظام حکومت ہوتا، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ : سکھاتکونون کذا لک بیو مَنْ عَلَیْکُمْ (مشکاة العنايیع ۱۰۴/۲)

مسلم ملکوں میں اسلامی قانون کے نفاذ میں ناکامی کا اصل سبب سیکولر مخالفوں کا ظلم یا دشمنان اسلام کی سازشیں نہیں ہیں، جیسا کہ اسلام پسند حضرات ہمیشہ کہا کرتے ہیں۔ اس کا اصل سبب خود علم برداران اسلام کی یہ غلطی ہے کہ وہ معاشرہ کو ضروری حد تک تیار کیے بغیر اسلامی قانون کے نفاذ کی ہمم لے کر کھڑے ہو گئے۔ پاکستان کا تجربہ واضح طور پر اس کی تصدیق کرتا ہے۔ پاکستان میں ایک سے زیادہ بار اسلام پسندوں کو حکومت پر جزوی یا کلی قبضہ کا موقع لا۔ مگر وہ کسی بھی درجہ میں وہاں شریعت کو ناقذ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ مثلاً مفتی محمد محمود کے زمانہ (۱۹۶۰ء - ۱۹۸۸ء) میں صوبہ سرحد کی حکومت، جزل محمد ضیا احمدی کے زمانہ (۱۹۸۸ء - ۱۹۹۷ء) میں پورے ٹک کی حکومت۔

حضرت عائشہ کی ایک روایت اس معاملہ کے اوپر نہایت صحیح تبصرہ ہے۔ صحیح البخاری، کتاب فضائل القرآن (باب تالیف القرآن) میں ایک طویل روایت آتی ہے۔ اس کا ایک حصہ یہ ہے :

انہائیں لے اول مانزاں منہ صورۃ من
المفصل۔ فیما ذکر الجنة والنار۔ حتی اذا
ثاب النائم الى الاسلام نزل العلام
والحرام۔ ولو نزله اول شیعی لا تشریعا
الخمن ل تعالوا الاندھُ الختموا ابدًا۔
ولو نزله لاتزفؤ تعالوا الاندھُ
الزفا ابدًا

قرآن میں پہلے مفصل کی سورتیں اتریں۔ ان میں
جنت اور جہنم کا ذکر تھا۔ یہاں تک کہ جب لوگ
اسلام کی طرف رجوع ہو گئے تو حلال و حرام کے
احکام اترے۔ اگر شروع ہی میں یہ اترتا کہ شراب
چپوڑ دو تو لوگ کہتے کہ ہم کبھی شراب نہ چپوڑیں گے۔
اگر شروع ہی میں یہ اترتا کہ زنا نہ کرو تو لوگ کہتے
کہ ہم کبھی زنا نہ چپوڑیں گے۔

مسلم مکونوں کے بارہ میں علماء نے یہ فرض کر لیا کہ چونکہ وہ مسلمان ہیں اس لیے وہ اسلامی قانون چاہتے
ہیں۔ یہ مکمل طور پر ایک غلط اندازہ تھا۔ موجودہ مسلم نسلوں کی حیثیت ایک قومی جماعت کی ہے نہ کہ حیثیت ایک
دنی گروہ کی۔ حتیٰ کہ ان میں جو لوگ نماز، روزہ جیسے اعمال کرتے ہیں یا حج اور عمرہ ادا کرتے ہیں، ان
کے بارہ میں کھایہ اندازہ سراسر غلط ہو گا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ حکومت کا اقتدار علماء کے ہاتھ میں ہو اور وہ
ان کے اوپر شریعت کے قوانین کا فنا ذکریں۔

مسلم مکونوں میں علماء کی غیر حقیقت پسند اور سیاست نے جو صورت حال پیدا کی ہے۔ اس کا خلاصہ
حضرت مائشہؓ کی زبان میں یہ ہے کہ علماء لوگوں کے اندر رجوع اور آمادگی پیدا کیے بغیر شراب اور زنا کے
احکام نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ اور وہاں کے خوام ان کو جواب دے رہے ہیں کہ ہم تو تمہارے اس قانون
کو کبھی اپنے اوپر نافذ نہیں ہونے دیں گے۔

اس سے پہلے ۱۸۲۲ء کو سید احمد بریلوی اور ان کے رفقاء نے پشاور کے علاقہ میں
اسلامی حکومت قائم کی تھی۔ سید صاحب کو اس میں امیر المؤمنین شغب کیا گیا تھا۔ مگر بہت جلد آپس میں
اختلاف ہوا۔ حتیٰ کہ مقامی مسلمانوں نے سید صاحب کے مقرر کردہ عاملوں کو قتل کر دیا۔ اس طرح یہ اسلامی
حکومت بننے کے ساتھ ہی ختم ہو گئی۔ معاشرہ کی تیاری کے بغیر اسلامی حکومت قائم کرنے کا یہ ناکام تجربہ
بعد والوں کے لیے چشم کشانہ بن سکا۔ وہ آج بھی اسی تجربہ کو دہراتے میں صروف ہیں جو دُریز ہو سوال
پہلے اپنا نامکن العمل ہونا ثابت کر چکا ہے۔

بیویں صدی کے نصف آخر میں تقریباً پوری مسلم دنیا میں ”اسلامی انقلاب“ کی تحریکیں چلائیں

گھٹیں۔ ان تحریکوں نے قائد طمار اور اسلام پسند مکریں تھے۔ ایران، پاکستان، مصر، سوڈان، بھارت، ابیریا، انڈونیشیا، بھلک دشیش اور دوسروں سے بہت سے مسلم علاقوں میں اس کی شایدیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ مگر یہ لوگ اپنے دور تحریک اور دور اقتدار دونوں میں صرف اسلام کو بننا مرنے کا سبب بننے۔ یہ کہ صحیح ہو گا کہ حکومت اپنی، اسلامی نظام اور فناذ شریعت کے نام پر اس دور میں جو تحریکیں اٹھیں وہ مدد اضافی پیدا کرنے والی (counter-productive) ثابت ہوئی ہیں۔

یہ ایک عبرت ناک حقیقت ہے کہ انہیوں صدی کے نصف آخر اور بیسویں صدی کے نصف اور میں بہت سے بڑے بڑے دماغوں نے یہ اعلان کیا کہ اسلام موجودہ زمان کے انسانی مسائل کا حل ہے بٹا سوامی دیوبندی (۱۸۶۲-۱۹۰۲) جارج برناڑو شا (۱۸۵۴-۱۹۵۰) آرنلڈ ٹوانی (۱۸۸۹-۱۹۴۵) وغیرہ۔ مگر بیسویں صدی کے نصف آخر میں کسی بھی قابل ذکر عالمی شخصیت کی زبان سے اس قسم کا اعتراف نہیں دیتا۔

اس کی وجہ موجودہ زمان کے نام بنا دنیا بی رہنماؤں کی غلط نمائندگی ہے۔ اس سے پہلے عالم مفکرین کے سامنے اسلام کے دور اول کی تاریخ تھی۔ اس سے متاثر ہو کر وہ اسلام کا شاندار تصور قائم ہوئے تھے۔ مگر موجودہ زمان کے علماء اور رہنماؤں نے اسلام کے نام پر جو بے معنی تحریکیں اٹھائیں وہ وہ انسانیت کے مصائب میں اضافہ کا سبب بنتیں۔ زمان حاضر کے ان نام بنا دنماں دگان اسلام کے نمونوں کو دیکھ کر لوگ اسلام سے بیزار ہو گئے۔ ان کا یہ تاثر ختم ہو گیا کہ اسلام موجودہ زمان میں انسانی فلاح ذریعہ بن سکتا ہے۔

پیغمبر کی مثال

عبداللہ بن عباسؓ کی دور کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک روز قریش کے اکابر بکعبہ کے پاس جمع ہوئے۔ انہوں نے باہم شورہ کر کے یہ طے کیا کہ اپنا ایک شخص بیسچ کر محمد کو بلا تاکر ان سے بات کر کے معاملات طے کیے جاسکیں۔ پیغام پاکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آئے۔ گفتگو شروع ہوئی تو قریش کے نمائندہ نے کہا کہ آپ ہماری قوم کے لیے مصیبت بن گئی۔ آپ نے ہمارے آباء کو گالی دی۔ ہمارے دین پر عیوب لگایا۔ ہماری عقولوں کو بیوقوف بتایا اور ہمارے اচنام کو گالیاں دیں (لقد شتمت الاجاه و عجبت الدينه)

سفہت الاحلام و شمت الالہة

اس قسم کی کچھ اور باتیں بیان کرنے کے بعد قریش کے نمائندہ نے آپ سے کہا کہ آپ تم اور تعییب اور تسفیر کا یہ کام چھوڑ دیں۔ اس کے عوض آپ جو کچھ چاہیں وہ سب ہم آپ کو یہنے کے لیے تیار ہیں۔ حتیٰ کہ اگر آپ بادشاہت چاہتے ہوں تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنانے کے لیے بارہیں (وَإِنْ كَفَتْ تَرْمِيدَ مُلَكَّا مُكَنَّاثَ عَلَيْنَا) البدایہ والہایہ ۵/۲

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے کی اس پیش کش کو قبول نہیں فرمایا۔ اور بدستور اپنے یقین کام میں گئے رہے۔ جب کہ معلوم ہے کہ بعد کو مدینہ جا کر آپ نے وہاں اسلام کی حکومت اٹام کی۔ ایسی حالت میں یہ سوال ہے کہ آپ نے کہ میں حکومت کی پیش کش کو کیوں قبول نہیں کر لیا۔ بو اسلامی حکومت آپ نے پندرہ برس بعد مدینہ میں قائم کی، اس اسلامی حکومت کو آپ نے بندہ برس پہنچے ہی کہ میں کیوں نہ قائم کر لیا۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامی حکومت اس طرح قائم نہیں ہوتی کہ ایک اسلامی شخصیت کی ذمہ کی طرح حکومت کی کمری پر بیٹھ جائے۔ حکومت کے قیام کا نہایت گھر اطلاق خارجی حالات سے ہے۔ اسلامی حکومت کے قیام کے لیے وہ معاشرہ درکار ہے جہاں لوگوں کے اندر اسلام کے حق میں آمادگی پیدا ہو چکی ہو۔ جہاں وہ اسباب جمع ہو چکے ہوں جو کسی اقتدار کو سکھم رونے کے لیے ضروری ہیں۔

کی دوسری مکہ کے اندر اس قسم کے موافق اسباب جمع نہیں ہوئے تھے۔ اس لیے آپ نے کہ میں حکومت قائم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ بعد کو مدینہ میں یہ اسباب جمع ہو گئے، اس لیے وہاں آپ نے باقاعدہ طور پر اسلام کی حکومت قائم کر دی۔

دونوں جنگوں کافر ق اس سے واضح ہے کہ میں ابو ہلب کی بیوی کے لیے ممکن تھا کہ وہ آپ کی مذمت میں اس قسم کے اشعار کہے اور ان کو مکہ کی آبادی میں چل پھر کر گئے کہ محمد قابل ذمہت ہیں۔ ہم نے ان کی بات مانتے سے انکار کر دیا :

مَدْمَمًا عَصَيْنَا . . . وَأَمْرَهُ أَبَيْنَا

دوسری طرف نبوت کے تیرھویں سال جب آپ اپنے رفیق ابو بھر بن ابی قحافةؓ کے ساتھ

مذینہ سخن تو وہاں دونوں کا استقبال اخذ طلتقاً آمئین مطاعین کے الفاظ سے کیا گیا۔ مذینہ کے پھول نے آپ کی آمد پر یہ اشعار پڑھ کر اسے ہماری طرف بیٹھنے جانے والے، آپ ایک قابل الطاعت بات لے کر آئے ہیں :

أَيُّهَا الْمَبْعُوتُ فِينَا جَسَّتْ بِالْأَمْرِ الْمَطَاعِ
اسی نوعیت کی شکل حضرت موسیٰ طیہ الاسلام کی زندگی میں بھی تھی ہے۔ حضرت موسیٰ کی قوم (بنی اسرائیل) کے لیے مقدر تھا کہ اس کو دوبارہ اقتدار دیا جائے جس طرح اس سے پہلے اس کو اقتدار دیا گی تھا (المائدہ ۷۶) چنانچہ حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد یوشیع بن نون کی قیادت میں بنی اسرائیل نے عمالق کے خلاف جہاد کیا اور ان کو زیر کر کے شام و فلسطین کے علاقوں میں اپنی حکومت قائم کی جو ایک عرصہ تک باقی رہی۔

یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس حکومت کا موقع تو انھیں نصف صدی پہلے حضرت موسیٰ طیہ الاسلام کے زمانہ ہی میں حاصل ہو چکا تھا۔ پھر اس کو نصف صدی تک موخر کیوں کیا گیا۔ حضرت موسیٰ کے زمانہ میں مصر میں یہ داقرہ ہوا کہ وہاں کا حکمران فرعون اور اس کی پوری فوجی طاقت سمندر میں فرق کر دی گئی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ کے لیے مصر میں میدان خالی تھا۔ وہ بنی اسرائیل کے ساتھ مصر کی راجدہانی مفس و اپس اگر وہاں کے خالی تخت پر قبضہ کر کے بیٹھ سکتے تھے۔ اور فرعون اور اس کے شکر کی معجزاتی ہلاکت کے بعد ان کے حق میں ملک میں مرعوبیت کی جو فنا بی۔ حقیقی اس کے تحت یقینی تھا کہ لوگ ان کی حکومت کو تسلیم کر لیں گے۔

مگر حضرت موسیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ وہ مصر کے خالی سیاہی میدان کو چھوڑ کر اپنی قوم کے ساتھ صحراء سینا میں چلے گئے۔ وہاں پالیں سال (۱۴۰۰-۱۳۳۰ قم) تک فاران اور شرق اردن کے درمیان بنی اسرائیل کے لوگ صحرائی مشقتوں کو جیلتے رہے۔ یہاں تک کہ ان کے زیادہ عمر کے تمام افراد مر گئے۔ اور صرف وہ نسل باقی رہی جو صحرائی ماحول میں پرورش پا کر تیار ہوئی تھی۔

اس تاخیر کا واحد راز یہ ہے کہ مصر میں بنی اسرائیل کی جو نسل تھی وہ مخصوص اسباب سے اخلاق ازدواج کا شکار ہو چکی تھی۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اپنے اور ہارون کے سوا کسی اور کے اوپر مجھے کوئی بھروسہ نہیں (المائدہ ۲۵) چنانچہ بنی اسرائیل کی پوری قوم کو ”وادی تیہہ“

میں ڈال دیا گیا تاکہ ان کے نام ادھیر اور بڑی عمر کے لوگ ختم ہو جائیں اور نئی نسل صحرائی حالات میں تربیت پا کر اپنے اندر قابلِ اعتماد سیرت پیدا کرے اور پھر اقتدار پر قبضہ کر کے اسلامی حکومت قائم کر سکے۔

ذکورہ دونوں واقعات واضح طور پر ثابت کرتے ہیں کہ حکومت صرف اس وقت قائم ہوئی ہے جب کہ اس کے حق میں ضروری اجتماعی حالات فراہم ہو چکے ہوں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال یہ بتاتی ہے کہ اگر آبادی میں حقیقی سطح پر موافق فضائی ہو تو پیغمبرؐ بھی وہاں اپنی حکومت قائم نہیں کر سکتا۔ اگر وہ اس قسم کی ضروری فضائی بغیر حکومت قائم کرے تو قائم ہونے کے جلد ہی بعد اس کا تختہ اللہ دیا جائے گا، اور آخر کار کچھ بھی حاصل نہ ہو گا۔

حضرت موسیٰ کی مثال بتاتی ہے کہ حکومت کے قیام کے لیے باکر دار افراد کی ایک مضبوط ٹیم کا ہونا لازمی طور پر ضروری ہے۔ اگر ایسی ٹیم نہ ہو تو خواہ ملک میں سیاسی خلاپا یا جائے اور خواہ اس سیاسی خلاکو پر گرنے کے لیے بیک وقت دو پیغمبر موجود ہوں تب بھی وہاں اسلامی حکومت کا قیام نہیں۔

اس پیغمبر از نظر کو سامنے رکھ کر دیکھئے تو معلوم ہو گا کہ موجودہ زمانہ میں ساری مسلم دنیا میں "اسلامی حکومت قائم کرو" کے نام پر جو ہنگامے جاری کیے گئے، وہ صرف نادانی کی چیلنج تھے۔ جس کا آخری نتیجہ صرف یہ ہو سکتا تھا اور یہی ہوا کہ آدمی حادثہ کا شکار ہو کر اسپتال میں پہنچ جائے اور منزل بستور دور کی دور پڑی رہے۔

زمانی تبدیلی

موجودہ زمانہ کے علماء کی یہ فلسفی ہے کہ انہوں نے بجزی قوموں کے غلبہ کو صرف سیاسی غلبہ کے ہم معنی سمجھا۔ حالانکہ اصل حقیقت یہ تھی کہ یہ ایک طاقت و رہنمایی کا لیغارتھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ سیاسی فتح و شکست اس معاملہ میں معنی اضافی ہے۔ ان قوموں کو بالفرض سیاسی جنگ کے میدان میں شکست ہو جائے تب بھی ان کا غلبہ باقی رہے گا۔ جیسا کہ دوسری عالمی جنگ کے بعد پیش آیا۔

تیرھوں صدی گیسوی میں مسلم دنیا پر تاتاریوں کا غلبہ محض ایک شمشیری غلبہ تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر دوبارہ شمشیر کے میدان میں انہیں شکست دے دی جائے تو عین اسی وقت ان کا غلبہ بھی ختم

ہو جاتا تھا۔ مگر مغربی اقوام کا غلبہ اس سے زیادہ تھا کہ اس کا فیصلہ کسی میدان جنگ میں کیا جاسکے۔

مغربی قوموں کے غلبہ و ترقی کا اصل راز یہ تھا کہ انہوں نے شاکر انسانی کوتب دیل کر دیا تھا۔ ان کے لائے ہوئے علمی انقلاب نے ساری دنیا کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ اسی طرح سوچیں جس طرح اہل مغرب سوچتے ہیں۔ وہ چیزوں کے بارہ میں اسی طرح رائے قائم کریں جس طرح اہل مغرب رائے قائم کرتے ہیں۔ اس تبدیلی نے میدان مقابلہ کو جنگ کے بجائے فکر کے میدان میں پہنچا دیا۔ اہل مغرب سے کامیاب مقابلہ کے لیے ضروری تھا کہ انہیں فکر کے میدان میں شکست دی جائے۔ اہل مغرب پر فتح پانے کے لیے وسیع تر مفہوم میں شاکر انسانی کو دوبارہ بدلتے کی ضرورت تھی۔ مگر عالم اسی جگہ کوں ہیں مشغول ہونے کی وجہ سے نہ اس راز کو مجھ سے اور نہ اس کے لیے انہوں نے کوئی حقیقی عمل انجام دیا۔

کوئیت بشری، امارت بشری

جیسا کہ اوپر عرض کی گیا، زندگی کی تشكیل میں کوئیت بشری (عقلیت انسانی) کی حیثیت بنیاد کی ہے اور امارت بشری کی حیثیت ظاہری دُھانچہ کی۔ کوئیت بشری اگر درست ہو تو ظاہری سیاسی دُھانچہ بھی لازماً درست ہو گا۔ کسی کی سازش یا تحریک اس کو صلاح سے ہٹانے میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس کی مثال ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کا زمانہ خلافت ہے۔ اور جب کوئیت بشری میں برگاڑ آ جائے تو اس کے بعد کوئی صالح حکمران بھی محض حکومت کے زور پر معاشرہ کو صالح معاشرہ نہیں بن سکتا۔

موجودہ زمانہ میں یہ در دنک منظر سامنے آیا ہے کہ عملی سیاست کے میدان میں علام کی تمام کوششیں مسلسل طور پر بے نتیجہ ثابت ہوئی ہیں۔ جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا، سید احمد بریلوی نے پشاور میں اسلامی حکومت قائم کی۔ مگر بہت کم مدت میں اس کا پورا دُھانچہ ٹوٹ کر ختم ہو گی۔ مولانا مفتی محمود کو موقع ملا کہ وہ پاکستان کے صوبہ سرحد میں اپنی چیف منسٹری کے تحت اسلام پسندوں کی وزارت بنائیں۔ مگر میعاد پوری ہونے سے پہلے ہی وہ ناکامی کے ساتھ ختم ہو گئی۔ سوداں میں ۱۹۸۸ء میں الاخوان المسلمون کو یہ موقع ملا کہ وہ جعفر النیری کی حکومت میں موثر شرکت کر سکیں۔ مگر ان کی یہ شرکت سوداں کے معاشرتی حالات میں کچھ بھی تبدیلی نہ لاسکی اور دوبارہ اپنی مدت کے اختتام سے پہلے ختم ہو گئی۔ پاکستان میں جزبل محمد ضیار الحق کو سارے گیارہ سال تک کامل حکمرانی کا موقع ملا۔ ان کو ہندو پاک دونوں ملکوں کے علام کی تائید حاصل تھی۔ مگر وہ پاکستان کے حالات میں کوئی بھی اسلامی تبدیلی لانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ وغیرہ

عملی سیاست کے میدان میں ٹلار کی مسلسل ناکامی کا سبب یہ ہے کہ وہ منصوبہ الہی کے خلاف چل رہے ہیں۔ ان کی ان تمام سرگرمیوں پر حضرت مالک شری کی وہ روایت صادق آتی ہے جس کا اور ذکر کیا گیا۔ وہ کونیت بشری کو درست یکے بغیر امارت بشری کا منصب بنسانا چاہتے ہیں۔ ایسی کوشش حضرت مالک شری کے قول کے مطابق، پیغمبر کے زمانہ میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتی تھی، پھر وہ موجودہ زمانہ میں کس طرح کامیاب ہو سکتی ہے۔

راقم الحروف کا اندازہ ہے کہ ٹلار کو صحیح طور پر اس کا اندازہ ہی نہیں کہ موجودہ زمانہ میں کونیت بشری میں کیا تبدیلی آتی ہے اور آج کا وہ انسانی شاکل کیا ہے جس کو سمجھنا اور جس کی تصحیح کرنا وہ ہلاکت و ریکام ہے جس میں اخیں سب سے پہلے مصروف ہونا چاہیے۔ تصحیح شاکل کے بغیر کوئی بھی عملی سیاست ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اگلی سطروں میں اس مسئلہ کی مختصر وضاحت کی جاتی ہے۔

شاکل انسانی کا مسئلہ

قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے شاکل (فکری مزاج) کے تحت عمل کرتا ہے۔ اس کا شاکل اگر شاکلِ ضلالت ہو تو اس سے خاطر عمل صادر ہو گا۔ اور اگر اس کا شاکل شاکلِ بدایت ہو تو اس سے صحیح عمل کا صد ور ہو گا (قل کن یعْلَمُ عَلٰی شَاكِلَتِهِ فَرِبَكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ هَدِي سَبِيلًا) پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھوڑے دنیا کا اصل مسئلہ یہ شاکل لوگوں کے اور پر شاکلِ ضلالت کا ظہر تھا۔ یہ شاکلِ مشرک کا ذ عقائد کے تحت بنا تھا۔ اسی شاکلِ ضلالت کو قرآن میں فقرۃ (اللانفال ۲۹) کیا گیا ہے۔ رسول اور اصحاب رسول نے اپنی غیر معمولی جدوجہد سے اس شاکلِ ضلالت کو توڑ دیا۔ اس کے بعد دنیا میں شاکلِ بدایت کا دور شروع ہوا جو توحید کے تصور پر بنی تھا۔ یہ شاکلِ بدایت کم و بیش ایک ہزار سال پہلے دنیا پر غالب رہا۔

اخصار ویں صدی میں یہ عہد ختم ہو گریا بعد شروع ہوا۔ اب تاریخ انسانی میں ایک نیا دور آیا۔ یہ دور دوبارہ شاکلِ ضلالت پر مبنی تھا جو محدود افراد کے اور پر قائم ہوا تھا۔ اسلامی دور میں "حددا" انسانی تکلیف کا مرکز تھا۔ یہی تصور انسانی اعمال کی تکمیل کرتا تھا۔ موجودہ زمانہ میں پیغمبر نے خدا کی جگہ لے لی۔ اب پیغمبر پر مبنی افراد انسانی اعمال کی تکمیل کرنے لگے۔ شاکل انسانی کی اس تبدیلی نے انسانی زندگی کے تمام عملی نقشوں کو یکسر بدلتا دیا۔ حتیٰ کہ جو لوگ بظاہر اب بھی خدا کو مانتے تھے وہ بھی اس

عام منکری طوفان سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔

جدید ذہن کو پیدا کرنے میں لمبی مدت اور سیکرڈوں اشناص کا عمل شامل ہے۔ تاہم علمی طور پر سر آئزک نیوٹن (۱۶۴۲ء۔ ۱۷۲۳ء) کو اس دور کا بانی کہا جاسکتا ہے۔ نیوٹن نے شمسی نظام کا مطالعہ کیا۔ اس نے اس بات کی تحقیق کی کہ سورج، چاند اور سیارے کے کس طرح حرکت کرتے ہیں۔ ان نظریاتی مظاہر کی تشریح اس نے میکینیکس کے قواعد کے ذریعہ کی۔ اس نے بتایا کہ یہاں ایک قانون تجاذب (Law of gravitation) ہے جس کی پابندی میں یہ اجرام خلائے بسیط میں حرکت کر رہے ہیں۔ قدیم زمان میں سادہ طور پر یہ سمجھا جاتا تھا کہ سورج، چاند کی گردش اور دوسرے تمام واقعات مقدراتِ خداوندی کے تحت پیش آتے ہیں۔ قدیم انسان اس سے نااشناختا کہ اپنے گرد پیش ہو گئے میں آنے والے ان واقعات کو قانون فطرت (Law of nature) کی اور اصطلاحوں میں بیان کرے۔

نیوٹن کی تحقیقات کی اشاعت نے پورے انسانی عقیدہ کو متزلزل کر دیا۔ مزید تحقیق کے بعد جب معلوم ہوا کہ زمین و آسمان کے تمام واقعات فطرت کے ایسے قوانین کے تحت ظاہر ہو رہے ہیں جن کو علم الحساب کی زبان میں بیان کیا جاسکتا ہے تو قدیم اعتقادیات کی بنیاد بالکل منہدم ہو گئی۔ جدید مفکرین نے اعلان کر دیا کہ واقعات اگر فطرت کے اسباب کے تحت پیش آتے ہیں تو وہ خود فرق الفطرت اسباب کا نتیجہ نہیں ہو سکتے :

If events are due to natural causes
they are not due to supernatural causes.

نیوٹن کے بعد مفکرین کا ایک اور گروہ اٹھا جس نے انسانی ذہن کی نئی تشکیل میں موثر کردار ادا کیا۔ اس گروہ میں نمائندہ شخصیت چارلس ڈارون (۱۸۰۹ء۔ ۱۸۸۲ء) کی ہے۔ نیوٹن نے طبیعی دنیا (physical world) کو قانون فطرت کے تحت حرکت کرتا ہوا دکھایا تھا۔ ڈارون نے بتایا کہ جیاتیاتی دنیا (biological world) بھی اسی طرح قانون فطرت کے تحت سفر کر رہی ہے۔ ابتدائی جرثومہ حیات سے لے کر انسان تک جتنے بھی جیاتیاتی مظاہر اس دنیا میں دکھائی دیتے ہیں وہ سب کے سب معلوم فطری قانون کے تحت ظہور میں آتے ہیں۔

ڈارون کے اس نظریہ پر اس کے بعد بے شمار مزید تحقیقات ہوئیں۔ اگرچہ اس کے ابتدائی نظریہ میں بعض تعلیلات کی گئیں۔ مگر بنیادی طور پر حیاتیاتی ارتقا کا نظریہ تمام جدید علم کے نزدیک سائنسی مسئلہ قرار پایا۔ اس کے نتیجے میں شوری یا غیرشوری طور پر ساری دنیا میں یہ ذہن بن گیا کہ انسان کی تحقیق کا خالق سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ اس قانون فطرت کا مظہر ہے جس کو خام طور پر ارتقا (Evolution) کہا جاتا ہے۔

جدید مفکرین کا تیراً گردہ وہ ہے جس کی نمائندگی کا مقام کارل مارکس (۱۸۱۸-۱۸۸۲) کو حاصل ہوا۔ مارکس نے انسانی تاریخ کے سفر کا ایک اداری فلسفہ پیش کیا جس کو اس نے تاریخ کی علمی تعبیر کا نام دیا۔ اس نے کہا کہ تاریخ میں خود اس کے اپنے اندر ونی قانون کے تحت طبقاتی جدوجہد (Class struggle) جاری رہتی ہے۔ اور یہی طبقاتی جدوجہد تاریخ کے حال اور مستقبل کی صورت گزی کرتی ہے۔

قلمی زمانہ کا انسان تاریخ کو تقدیر کا گزینہ سمجھتا تھا۔ اس کا عقیدہ تھا کہ ایک برتر خدا ہے جو تاریخی واقعات کو کسی ایک یاد و سری صورت میں تنظیل دیتا ہے۔ مگر مارکس کے مذکورہ فلسفہ اور اس فلسفہ کی بنیاد پر پیدا ہونے والے بے شمار لٹپڑھرنے ساری دنیا کے انسانوں کو شوری یا غیرشوری طور پر متاثر کیا۔ لوگ تاریخ کو ایک غیر خدا کی نظر سے دیکھنے لگے جب کہ اس سے پہلے وہ اس کو خدا کی دائرہ کی نظر سے دیکھتے تھے۔

معیار قوت میں تبدلی

اوپر جو بات کہی گئی وہ قوانین فطرت کی دریافت کے فلسفیانہ پہلو سے تعلق رکھتی تھی۔ عتلی افقار سے اس دریافت نے مغرب کو مزید ایک بہت بڑا فائدہ پہنچایا۔ اس کے ذریعہ اہل مغرب کے لیے یہ ممکن ہوا کہ وہ تاریخ میں پہلی بار طاقت کے معیار کو بدلتے دیں۔ وہ طاقت و قوت کو ایک پیامبوم دے دیں جس سے کچلی قومیں آشنا نہیں ہو سکی تھیں۔

اس کے ذریعہ اہل مغرب نے قدیم روایتی دور کو نئے سائنسی دور میں داخل کر دیا۔ انہوں نے دستکاری کی صنعت کو مشینی صنعت میں تبدیل کر دیا۔ انہوں نے چاہرائی کو بادبانی کشی کے دور سے نکال کر دخانی کشی کے دور میں پہنچا دیا۔ انہوں نے دستی ہتھیاروں سے آگے بڑھ کر دوربار

ہتھیار تیار کر لیے۔ انہوں نے بڑی اور بھری سفر پر ہوائی سفر کا اضافہ کیا۔ انہوں نے جیوانی قوت سے چلنے والی سواری کو انہن کی قوت سے چلنے والی سواری میں تبدیل کر لیا۔ انہوں نے اسی تاریخ کو محنت کے عمل کے دور سے نکال کر منصوبہ بند عمل کے دور میں پہنچا دیا۔

تاریخ کے پچھے ادوار میں ایک فریق اور دوسرے فریق کے درمیان زیادہ تر تکمیلی فرق (Qualitative difference) ہوا کرتا تھا۔ اب اہل مغرب نے ایسا درج تکمیل کیا جب کہ ان کے اور دوسروں کے درمیان کیفیاتی فرق (Quantitative difference) پیدا ہو گیا۔ اس تبدیلی نے اہل مغرب کو دوسری قوموں کے اوپر واضح اور فیصلہ کن فوقيت دے دی۔

ان فروق نے جس طرح حالات کو بدلا، اسی طرح خود انسانوں میں زبردست تبدیلیاں پیدا کیں۔ اب اہل مغرب نئی دریافت کی نسبیات میں جو رہے تھے اور اہل مشرق و راشتی عقیدہ کی نسبیات میں۔ اہل مغرب اجتہادی اوصاف کے مالک تھے اور اہل مشرق تقليدی اوصاف کے مالک۔ اہل مغرب کے درمیان آزادی تلقیق کا ماحول تھا اور اہل مشرق کے یہاں ذہنی جمود کا ماحول۔

اہل مغرب کا قافلہ روایا کی مانند تھا اور اہل مشرق کی جماعت ٹھہرے ہوئے پانی کی اندھی اہل مغرب ایک مقصد کے تحت متحرک ہوئے تھے اور اہل مشرق کے یہاں مقصد کا تصور فتا ہو چکا تھا۔ اہل مغرب کے زندہ اوصاف نے ان کو باہم تحد کر رکھا تھا اور اہل مشرق اپنے زوال یافتہ اوصاف کے تیجے میں ان خصوصیات سے مردم ہو چکے تھے جو افراد کو ایک دوسرے سے تحد کرتے ہیں۔ اہل مغرب اس احساس پر ابھرے تھے کہ انہوں نے ایک نئی تہذیب پیدا کی ہے جس کو انہیں سارے عالم تک پہنچانا ہے اور اہل مشرق صرف اس احساس پر زندہ تھے کہ وہ ماضی کے قدیم ثابت کے دارث ہیں۔ اہل مغرب اقدام کے جذبات سے بہر پرور تھے جب کہ اہل مشرق کی دوڑ کی آخری حد تحفظ پر جا کر ختم ہو جاتی تھی۔

اس فرق نے دونوں جماعتوں کے افراد کے درمیان زیادہ بڑے پیارہ پر وہی فرق پیدا کر دیا تھا جو ایک شکلی ہوئی فوج اور ایک تازہ دم فوج کے درمیان ہوا کرتا تھا۔ الیکی خالت میں اصل مسئلہ یہ تھا کہ اپنے گروہ کے افراد کو ازسر نو تیار کیا جائے نہیں کہ ان غیر تیار شدہ افراد کو جوش دلا کر انہیں فریق شناختی کے فلاٹ صفت آرا کر دیا جائے، جیسا کہ موجودہ دور کے طالا نے کیا۔

عُسْرٍ میں یُسْرٌ

علماء کے ذہن پر سیاست و حکومت کے خیز دری تسلط کا سب سے زیادہ ہلک فقہان یہ ہوا کہ جدید انقلاب میں انھیں ہر طرف بس فلم اور سازش اور مصائب نظر آئے۔ اس انقلاب کے اندر چھپے ہوئے امکانات و موقع کو دیکھنے سے وہ کلی طور پر محروم رہے۔ اور جو لوگ موقع کو دیکھنے سے محروم رہیں وہ یقین طور پر ان کو استعمال کرنے سے بھی محروم رہتے ہیں۔

قرآن میں بتایا گیا ہے کہ اس دنیا کے لیے خدا کا قانون یہ ہے یہاں ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی ضرور موجود رہے یہاں ہر مسئلہ کے ساتھ ہری موقع بھی ضرور پائے جائیں (فَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْعَسْرِ يَسِّرُهَا)

(ان مع العسر يسرها)

قدیم تفسیروں میں اس آیت میں مجع کی تفسیر مجع (ساتھ) کے ذریعہ کی گئی ہے مثلاً مفسر ابن کثیر نے اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس آیت کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ عسر کے ساتھ یہ رپایا جاتا ہے (انچہ تعالیٰ ان مع العسر يوجِّدُ الْيَسِّرَ)

مگر موجودہ زمانہ کے علماء رزمانی سائل کا اتنا غلبہ تھا کہ وہ اس حقیقت کو سمجھنے کے۔ انھوں نے اپنے خیر واقعی فہمی تاثر کے تحت آیت میں یہ تصرف کیا کہ مجع کو بعد کے معنی میں لے لیا۔ اور اس کے مطابق اس کی تشریح کر دی۔ مولانا ابوالاعلیٰ مودودی تفہیم القرآن میں سورہ الانشراح کی اس آیت کے تحت لکھتے ہیں :

”اس بات کو دو مرتبہ دہرا�ا گیا ہے تاکہ حضور کو پوری طرح تسلی دے دی جائے کہ جن سخت حالات سے آپ اس وقت گزر رہے ہیں یہ زیادہ دیر رہنے والے نہیں ہیں بلکہ ان کے بعد قریب ہی اچھے حالات آنے والے ہیں۔ بظاہر یہ بات متناقض معلوم ہوتی ہے کہ تنگی (عسر) کے ساتھ فراخی (یسر) ہو۔ کیوں کہیے دونوں چیزیں بیک وقت جمع نہیں ہوتیں۔ لیکن تنگی کے بعد فراخی ہونے کے بجا تر تنگی کے ساتھ فراخی کے افاظ اس معنی میں استعمال کیے گئے ہیں کہ فراخی کا دور اس قدر قریب ہے کہ گویا وہ اس کے ساتھ ہی چلا آ رہا ہے“

اس تفسیر میں مجع کی ساری اہمیت ختم ہو گئی۔ حالانکہ مجع کا لفظ یہاں بہت بامعنی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا میں جب بھی کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو اسی کے ساتھ حل کی

صورت میں بھی موجود رہتی ہیں۔ یہاں ہر دس ایڈ وائلچ اپنے ساتھ ایڈ وائلچ کو بھی ضرور لے آتا ہے۔ مغربی تہذیب اور غربی استعمار کا معاشر بھی یہی تھا۔ وہ مسلم دنیا کے اوپر ایک بلا کے طور پر نازل ہوا۔ مگر اسی کے ساتھ اس میانزیر درست قسم کے موافق امکانات بھی ہمارے لیے موجود تھے۔ اور سب سے بڑا موافق امکان یہ تھا کہ اس نے اسلام کی دعوت کے ایسے نئے اور طاقتور امکانات کھول دیے جو کچھلی تاریخ میں بھی حاصل نہ تھے۔ علاوہ اگر اس راز کو سمجھتے اور اس کو استعمال کرتے تو وہ تاریخِ جدید کے الیہ کوامت کے حق میں طلبیہ بنادیتے۔ مگر مذکورہ ذہن کی وجہ سے وہ اس کو سمجھنے سکے۔

نئے دعویٰ امکانات

موجودہ زمان میں جو نئے دعویٰ امکانات پیدا ہوئے ہیں اس پر راقم المحوف نے کثیر تعداد میں کتابیں اور مصنایں شائع کیے ہیں۔ یہاں منحصر طور پر اس کے کچھ پہلوؤں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔

- دور جدید کی بنیاد آزادی فکر پر تھی۔ اس فکری انقلاب نے جس طرح اور بہت سی چیزوں پر پیدا کیں، اس نے ایک نہایت اہم چیزوں پر اسی جس کو نہیں آزادی کیا جاتی ہے۔ تاریخ کے تمام پچھلے زمانوں میں مذہبی تعذیب (religious persecution) کا عام رواج رہا ہے۔ موجودہ زمان میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ مذہبی آزادی اور مذہبی تبلیغ کو ایک جائز انسانی حق کے طور پر تسلیم کیا گیا اور اقوام متعدد کے حقوق انسانی کے نشوور کے تحت تمام دنیا کی قوموں نے اس پر اپنے دلخواہیت کیے۔ اس تبدیلی نے تاریخ میں پہلی بار ہمارے لیے یہ مواقع کھول دیے کہ ہم بے روک ٹوک دین حق کی تبلیغ و اشاعت کر سکیں۔

- موجودہ زمانہ آزادانہ تحقیق (free inquiry) کا زمانہ تھا۔ اس کے نتیجے میں جس طرح دوسری چیزوں کی آزادانہ جانچ کی گئی، اسی طرح مذہب اور مذہبی کتابوں کو بھی آزادانہ طور پر جانچا گی۔ مثال کے طور پر تقدیم بائبل (biblical criticism) کے تحت بائبل کا جو تقدیمی مطالعہ کیا گیا اس سے غالباً ملکی سلطنت پر یہ ثابت ہو گی کہ بائبل کا موجودہ قدن تاریخی طور پر معتبر تنہ ہیں ہے۔ دوسری طرف قرآن پر اسی قسم کے مطالعہ نے یہ ثابت کیا کہ قرآن کا موجودہ قدن تاریخی معیار سے آخری حد تک ایک معتبر تن ہے۔ جدید دور نے ایک طرف انسانی علم کے معیار پر دوسرا کتب مقدار کا معرفت ہونا۔ ثابت کر دیا اور اس طرح خود انسانی علم کے معیار پر یہ ثابت ہو گیا کہ قرآن مکمل طور پر ایک فیر معرفت کتاب

ہے۔ تقابلی مذہب کے اس مطالعے نے دور جدید میں اسلامی دعوت کا ایک نیا دروازہ کھول دیا جو ابھی تک بند پڑا ہوا تھا۔

۲۔ موجودہ زمانہ میں جو مختلف نئے طور پیدا ہوئے۔ ان میں سے ایک وہ ہے جس کو علم الامان (anthropology) کہا جاتا ہے۔ اس میں انسان معاشروں کا مطالعہ خالص موضوعی انداز میں کیا گیا۔ اس مطالعے سے یہ ثابت ہوا کہ خدا اور مذہب کا عقیدہ ہر انسانی معاشرہ میں ہمیشہ موجود رہا ہے۔ اس تحقیق نے یہ ثابت کیا کہ خدا اور مذہب کا عقیدہ ایک فطری عقیدہ ہے۔ وہ انسان کی خود اپنی طلب کا جواب ہے۔ اس دریافت نے اسلامی دعوت کو یہ حیثیت دے دی کہ وہ اسی طرح انسانی فروخت کی فراہمی کا ایک کام ہے جس طرح خوراک کی فراہمی (food supply) کا نظام۔

۳۔ موجودہ زمانہ میں جو انسنی حلقہ دریافت ہوئے، وہ حیرت انگریز طور پر قرآن کے بیانات کی تائید کر رہے تھے۔ وہ قرآن کی اس پیشین گوئی کی تصدیق تھے کہ: عنقریب ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے، آفاق میں بھی اور انفس میں بھی۔ یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ وہ حق ہے (فصل ۵۲) اس اقتدار سے جدید انسانیک سلم داعی کے لیے طاقتور علمی ہتھیار کی حیثیت رکھتی ہے۔

۴۔ نئی ایجادات میں ایک چیز وہ ہے جس کو جدید مواصلات (modern communication) کہا جاتا ہے۔ اس نے تاریخ میں پہلی بار تمام فحصلے آخری حد تک گھنادیے ہیں اور اس طرح اس کو ممکن بنایا ہے کہ ایک راجی نہایت آسانی کے ساتھ ساری دنیا کو اپنی تبلیغ کا میدان بناسکے۔ وسائل کے اقتدار سے یہ حدیث رسول کی اس پیشین گوئی کا ٹھور ہے جس میں خبر دی گئی تھی کہ ایک وقت آئے گا جب کہ اسلام کی آواز تمام دنیا کے ہر گھر میں پہنچ جائے گی۔

۵۔ میں نے اپنی کتاب "عقلیاتِ اسلام" کے ابتدائیہ میں جون ۱۹۸۰ء میں کہا تھا کہ "آزاد دنیا" میں دعوت کے غیر معولی نئے انکاتات پیدا ہو گئے ہیں۔ تاہم اشتراکی دنیا کا اس میں استشارة ہے۔ کیوں کہ وہاں کامل جبر کا نظام قائم ہے۔ اس لیے وہاں اس وقت دعوت اسلامی کے کھلے موقع موجود نہیں ہیں۔ مگر اس تحریر کے صرف ۱۷ اسال بعد حالات بدلتے گئے۔ ۱۹۹۱ء کے خاتمه کے ساتھ اشتراکی ایسا پارک کا بھی خاتمہ ہو گی۔ اب اشتراکی دنیا میں بھی تبلیغ دین کے وہی موقع کھل گئے ہیں جو اس سے پہلے صرف غیر اشتراکی دنیا میں پائے جاتے تھے۔

دور جدید سے پہلے خبری

اس سے پہلے میں نے ایک مضمون لکھا تھا۔ میضون "دور جدید کو جانتے کی ضرورت" کے عنوان سے ہفت روزہ اجمیعت (۲۳ نومبر ۱۹۶۷ء) میں چھپا تھا۔ اس میں میں نے لکھا تھا کہ "دنیا میں فکر و عمل کا جو انقلاب آیا ہے اس نے اسلام کے لیے بہت سے مسائل پیدا کیے ہیں۔ مگر یہ کتنا بڑا الیہ ہے کہ اگرچہ است طویل مدت سے اس نگینہ صورت حال سے دوچار ہے۔ مگر آج تک یہ سمجھنے کی سعیدہ کوشش نہیں کی گئی کہ فی الواقع جدید مسئلے ہے کیا۔"

ندوۃ العلماء، لکھنؤ نے ۱۸۹۳ء میں لک کے بڑے بڑے علماء کی ایک کمیٹی مقرر کی جس کے ذمہ تیر کام تھا کہ دہ اصلاح نصہاب کے سلسلہ میں اپنی سفارشات پیش کرے۔ اس موقع پر بولا ہاشم شاہ محمد حسین صاحب نے جو یادداشت پیش کی، اس کا ایک پیر اگراف مطبوعہ رواداد کے مطابق، یہ تھا :

(موجودہ درس نظامیہ کا ایک نقصان یہ ہے کہ) فلسفہ جدید جو اسلامی اصول پر آج کل حللاً اور ہے، اس کے روک کی کوئی تدبیر نہیں بتائی جاتی۔ لہذا میرے نزدیک مناسب ہے کہ کوئی کتاب فلسفہ جدید میں تالیف کی جائے اور اس کی ترکیب آسان یہ ہے کہ ایسے خالص مسلمانوں سے درخواست کی جائے جنہوں نے انگریزی فلسفہ اور انگریزی ہی تعلیم اپنی پائی ہو۔ وہ مسائل فلسفہ مختلف اسلام چھانٹ کر اردو میں ترجیح کر کے حوالہ ندوۃ العلماء کریں۔ ندوۃ العلماء اس کا جواب لکھا کہ داخل درس کر کے کرایم تعطیل و اوقات فرست میں طلب اس کو بخوبی دیکھیں۔

اس تجویز پر تقریباً سو سال گزر چکے ہیں۔ مگر اب تک یہ تجویز واقعہ نہ بن سکی۔ ندوۃ العلماء نے اپنے دعوے کے مطابق، اس مدت میں بڑی بڑی ترقیاں کی ہیں۔ مگر یہ تحریکات ایک جگہ پات ہے کہ ندوۃ العلماء کا نصہاب آج بھی ایسی کسی کتاب سے غالی ہے۔

مولانا ابوالاعلیٰ مودودی نے تقییم ہند سے دس سال پہلے ایک کتاب لکھی جو "تجدید و احیاء دین" کے نام سے شائع ہوئی۔ اس میں وہ شاہ ولی اللہ سے لے کر شاہ اسماعیل لہک کی اسلامی تحریکوں کی نکامی کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

"سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید جو عملاً اسلامی انقلاب برپا کرنے کے لیے اٹھے تھے، انہوں نے سارے انتظامات کیے مگر اتنا نہ کیا کہ اہل نظر ہوا، کا ایک وفادہ یورپ سمجھتے اور یہ تحقیق

براتے کریے قوم جو طوفان کی طرح چھاتی چلی جا رہی ہے اور نئے آلات، نئے وسائل، نئے طریقوں اور نئے علوم و فنون سے کام لے رہی ہے اس کی اتنی قوت اور اتنی ترقی کا راز کیا ہے۔ اس کے گھر میں کس نوعیت کے ادارات قائم ہیں۔ اس کے علوم کس قسم کے ہیں۔ اس کے تدبیں اساساً ن چیزوں پر ہے۔ اور اس کے مقابلہ میں ہمارے پاس کسی چیز کی کمی ہے۔

اس قسم کا احساس مدت سے بار بار ظاہر کیا جا رہا ہے۔ مگر اب تک کوئی بھی قابل ذکر عالم ایسا ہیں نکلا جو فی الواقع اس تحقیقی مقصد کے تحت مغربی دنیا کا سفر کرے یا اس خاص مقصد کے لیے مغربی لہجہ کا گپڑا اور موضوعی مطالعہ کرے۔ موجودہ زمانہ میں سفروں کے بڑھنے کی بنا پر کچھ علماء کو یہ موقع ٹاکر دہ پور پ اور امریکہ کے شہروں میں ہائیں۔ مگر اسی جانے کا کوئی بھی تعلق نہ کوہ تحقیقی مقصد سے نہیں ہے۔ یہ تمام لوگ جو بظاہر پور پ یا امریکہ جاتے ہیں وہ تحقیقتہ پور پ یا امریکہ نہیں جاتے بلکہ پور پ اور امریکہ کے کچھ مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں۔ ان جانے والوں کا مغربی دنیا سے کوئی حقیقی بربطات نہیں ہوتا اور نہ وہ وہاں کے اصل حالات کی تحقیق کے لیے کوئی کوشش اور جدوجہد کرتے۔

یہاں دو کتابوں کی مثال یہ ہے۔ ایک سید قطب کی کتاب : امریکا اتحادی رائیت (امریکہ جس سویں نے دیکھا) اور دوسری کتاب مولانا ابو الحسن علی ندوی کے سفر مغرب کی مفصل روایاد جو "دو ہیئتے امریکے میں" کے نام سے چھپی ہے۔ ان دونوں کتابوں کا کوئی تعلق امریکی ازندگی کے گپڑے مطالعہ سے نہیں۔ مثال کے طور پر "دو ہیئتے امریکے میں" کو ایک شخص پڑھتا ہے تو وہ حیرت انگیز طور پر پاتا ہے کہ صاحب سفر کے دو ہیئتے امریکے میں گزر جاتے ہیں مگر اس لمبی مدت میں اس کی کسی اصل امریکی سے ملاقات تک نہیں ہوتی۔ ز امریکی نظریہ حیات کو سمجھنے کے لیے وہ وہاں کے کسی ادارہ کا گپڑا مطالعہ کرتا۔

ان کتابوں کو پڑھ کر کوئی شخص مغرب کے بارہ میں سطحی قسم کا کچھ منفی تاثر تو مزور نہ سکتا ہے۔ مگر ان کو پڑھنے والا یہ نہیں جان سکتا کہ امریکہ کی قوت کا راز کیا ہے۔ اور اس کا وہ فکری اثاثہ کیا ہے جس کے اور اس کے نظریاتی دھانچے کی تکمیل ہوئی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ موجودہ زمانہ کے علماء مغربی افکار کو سرے سے جانتے ہی نہیں۔ ناقص معلومات کی بنا پر ہمارے علماء کے ذہن میں مغربی انسان کی اسی طرح غلط تصویر بن گئی ہے جس طرح قیم مسٹر شرقيین کے ذہن میں اسلام کی بالکل غلط تصویر بن گئی تھی۔ مثال کے طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ مغربی انسان

عقل پرست ہوتا ہے۔ وہ بے قید آزادی فکر کا قائل ہے۔ ایک عالم کے الفاظ میں، مغربی انسان کا کام
ہے — لاموجود الاعقل۔

مگر یہ مغربی عقل کی نہایت غلط تعبیر ہے۔ مغربی انسان بے قید فکر کو نہیں بلکہ تحقیق فکر کو عقل مجحت
ہے۔ اصل یہ ہے کہ قدیم زمان میں اعتقادی مسلمات یا بدیہیات کی بنیاد پر استدلال کیا جاتا تھا۔ موجودہ
زمانہ میں عقلی غور و فکر کا معیار یہ ہے کہ کسی بھی عقیدہ یا نظریہ کو پختگی مسئلہ کے طور پر نہ مانا جائے، بلکہ
واقعات و حقائق کی روشنی میں پرکھ کر اس کے بارہ میں ایک راستے قائم کی جائے۔

مزید یہ کہ یہ تصور عقل ہمارے لیے انتہائی منفید ہے۔ کیوں کہ اسلام کی بنیاد محکم حقائق پر ہے
اور دوسرے مذاہب اپنی موجودہ صورت میں مفرد صفات اور قوہات پر قائم ہیں۔ مثال کے طور پر
موجودہ زبان میں مذکورہ عقلی تصور کے تحت تمام مذاہب کی مقدس کتابوں کی علمی تحقیق کی جانے لگی۔
اس تحقیق میں مغربی علماء نے جس طرح دوسرے مذاہب کی مقدس کتابوں کی علمی جاپچ کی۔ اسی
طرح انہوں نے قرآن کی بھی علمی جاپچ کی۔

قدیم زمان میں موجودہ باطل کو مسلم طور پر خدا کا کلام مان لیا گیا تھا۔ اس کو علمی تحقیق کے بغیر
مقدس کلام کا درجہ دے دیا گیا تھا۔ اب جدید معیار عقل کے مطابق باطل کے متن کا جائزہ لیا گیا۔ اس
کے بعد عین علم انسانی کی سطح پر یہ ثابت ہو گیا کہ موجودہ باطل تاریخی یہیت سے ایک غیر معتبر کتاب
ہے۔ دوسری طرف اس علمی تحقیق نے قرآن کے بارہ میں ثابت کیا کہ اس کو مکمل طور پر تاریخی
اعتباریت (historical credibility) حاصل ہے۔

علماء اگر مغربی فکر کو گہرائی کے ساتھ سمجھتے تو اس کو اپنے لیے یعنی منفید سمجھ کر اس کا استقبال
کرتے۔ مگر علمی معلومات کی بنیاد پر وہ اس کے مخالف بن گئے اور اس کا مذاق اڑانے لگے۔

چند مشاہیں

سید ابوالاعلیٰ مودودی کے نزدیک اسلام ایک مکمل سیاسی انقلاب کی حرکیک ہے۔ اس
سلسلہ میں اپنے نقطہ نظر کی وضاحت کرتے ہوئے وہ پر جوش طور پر لکھتے ہیں :

”آج دنیا آپ کے وزدن کو اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدابند کرتے ہوئے اس لیے ٹھنڈے
پیٹوں سن لیتی ہے کہ نزپکار نے والا جانتا ہے کہ کیا پکار رہا ہوں، نہ سننے والوں کو اس میں کوئی معنی

ار مقصد نظر آتا ہے۔ لیکن اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اس اعلان کا مقصد یہ ہے اور اعلان کرنے والا جان بچھ کر اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ میرا کوئی بادشاہ یا فرمان روانہ نہیں ہے۔ کوئی حکومت میں تسلیم میں کرتا۔ کسی قانون کو میں نہیں مانتا۔ کسی عدالت کے حدود اختیارات مجھ تک نہیں پہنچتے۔ کسی کا کام میرے لیے حکم نہیں ہے۔ کوئی رواج اور کوئی رسم مجھے تسلیم نہیں۔ کسی کے امتیازی حقوق کسی ایسا است، کسی کا تقدیس، کسی کے اختیارات میں نہیں مانتا۔ ایک اللہ کے سوا میں سب سے منفعت دوں۔ تو آپ بھوکھتے ہیں کہ اس صد اکوئیں بھی ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کیا جاسکتا۔ آپ خود یہ سے لڑنے جائیں یا زیارتیں دنیا خود آپ سے لڑنے آجائے گی۔ یہ آواز بلند کرتے ہی آپ دیوں محسوس ہو گا کہ یہ کا یک زمین و آسمان آپ کے دشمن ہو گئے ہیں اور ہر طرف آپ کے لیے مانپ، پچھو اور درندے ہیں ॥" اسلامی سیاست، دہلی ۱۹۸۶، صفحہ ۴۶-۴۷

سید ابوالاعلیٰ مودودی نے یہ پر جوش الفاظ اس لیے لکھ کہ انہوں نے دیکھا کہ آج ہماری مسجدوں سے اذان کی آواز بلند ہو رہی ہے تو کوئی اس کی وجہ سے ہم سے لڑنے نہیں آتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں توحید کی آواز بلند کی تو ہر طرف سے قشدزادہ مخالفت رو رکھ ہو گئی۔ کسی کو گمراہ والوں نے نکال دیا۔ کسی پر مار پڑی۔ کسی کو قید میں ڈالا گی۔ کسی کو تپتی دی گئی۔ ریت پر گھمیٹا گیا۔ کسی کی سر بazar پھر دوں اور گالیوں سے تواضع کی گئی۔ کسی کی آنکھ بولڑ دی گئی۔ کسی کا سر پھاڑ دیا گیا ॥ (صفہ ۲، ۳)

یہ الفاظ دور جدید سے بے خبری کا ثبوت ہیں۔ مصنف اگر زمانہ حاضر سے گھری واقفیت رکھتے رہے جانتے کہ اس فرق کا سبب زمانی عامل (age factor) ہے۔ قدیم زمانہ میں تعزیب (religious persecution) کا زمانہ تھا، موجودہ زمانہ میں ہی آزادی کا زمانہ ہے۔ مذکورہ فرقہ الالا اللہ کے سیاسی مفہوم کا تباہ نہیں بلکہ یہ زمانی فرقہ کا معاملہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خود سید ابوالاعلیٰ مودودی جو یقینی طور پر اس "انقلابی مفہوم" کے حامل تھے، انہوں نے اور ان کی جماعت نے متفقہ ہندستان میں دس سال تک اپنے انقلابی مفہوم کے مطابق "اذان" دی۔ مگر یہاں کی حکومت نے کبھی اس بنی پران کی پکڑ دھکڑنے کی۔ اور زمان کے سروں پر اس وجہ سے اُرسے چلائے گئے۔

مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی اگر اس زمانی فرق کو جانتے تو اس کو وہ اسلامی دعوت

کے حق میں ایک عظیم امکان سمجھتے۔ مگر اس فرق کی حقیقت رنجانے کی وجہ سے وہ اس کو استعمال نہ کر سکے۔

مولانا ابوالا علی مودودی کی ایک کتاب "تفیحات" ہے۔ اس میں صفت کے وہ مضامین جمع کیے گئے ہیں جو انہوں نے اسلام اور مغربی تہذیب کے تصادم پر لکھتے۔ اس کتاب میں بتایا گیا ہے کہ مغربی تہذیب سراسراً اطلیل تہذیب ہے۔ دہربیت، الحاد، لامہ بہیت اور مادہ پرستی نے اس کو پیپ کیا ہے۔ مذہب کے خلاف عقل و حکمت کی لڑائی نے اس تہذیب کو جنم دیا ہے (صفحہ ۹) اسلام کے اصول تمدن و تہذیب مغربی تہذیب و تمدن کے اصول سے یکسر مختلف ہیں (صفحہ ۲۵) وہ تم خبیث جو مغرب کی نشأۃ شنازی کے زمانہ میں بویا گیا تھا، چند صدیوں کے اندر تمدن و تہذیب کا ایک عظیم الشان شجر غصیث بن کراما ہے جس کے پھل میٹھے مگر زہر آلو ہیں۔ جس کے پھول خوش نہماً مگر خاردار ہیں۔ جس کی شاخیں بہار کا منظر پیش کرتی ہیں مگر وہ ایسی زہر لی ہوا اگل رہی جو نظر نہیں آتی اور اندر ہی اندا نو عبرتی کے خون کو مسموم کیے جا رہی ہیں (صفحہ ۲۸-۲۹)

اس قسم کے مضامین صرف جدید تہذیب سے بے خبری کا نتیجہ ہیں۔ اس بے خبری کا نتیجہ یہ ہوا موجودہ زمانے کے علاوہ کے یہ تہذیب صرف نفرت و حقارت کا موضوع بن گئی۔ وہ اس کے اندر چھپے ہوئے ثابت امکانات کو دریافت کرنے سے قاصر ہے۔ اور اسی لیے وہ اس کو اپنے حق میں استعمال بھی نہ کر سکے۔

سطر رائے

انیسویں صدی کے آغاز میں شاہ عبد العزیز دہلوی نے اعلان کیا کہ ہندستان دارالحرب ہو گیا ہے۔ اس کے بعد ۱۹۰۵ علاوہ نی فتویٰ دیا کہ مسلمانوں پر فرض ہو گیا ہے کہ وہ انگریزوں کے خلاف جہاد بالسیف کریں۔ اس واقعہ کے ڈیرہ سوسال بعد بھی جہاد بالسیف کی باتیں بدستور جاری ہیں۔ مولانا ابوالحسن علی ندوی ایک سفر کے دوران حص میں گئے۔ اس کی رواداد بیان کرتے ہوئے وہ اپنے خود نوشت سوانح عمری میں لکھتے ہیں :

"حص، جو سیف الشفالد بن ولید کی آرامگاہ ہے، وہاں مرکز اخوان المسلمين میں ۱۹۱۹ء کو میری ایک ولولہ انگلیز تقریر ہوئی۔ میں نے کہا کہ شام و حص کے رہنے والو، عالم اسلام کو اب

پھر ایک سیف اللہ کی ضرورت ہے۔ کیا آپ عالم اسلام کو اس کی کھوئی ہوئی تواریخ متعاردے سکتے ہیں یہ صفحہ ۲۹۰

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسلم رہنمائی کا طرح دور حاضر کی اصل حقیقت سے بے خبر ہے۔ انہوں نے موجودہ زمانہ میں پیش آنے والے مسئلہ کو سادہ طور پر صرف سیاسی یا جری مسئلہ سمجھا۔ حالانکہ وہ در اصل دور انسانی میں تبدیلی کا مسئلہ تھا۔ اپنی اس بے خبری کی بنا پر وہ اپنی جدوجہد میں اس کی روایت نہ کر سکے اور نتیجہ ان کی ساری قربانیاں لا حاصل ہو گئیں۔

اہل مغرب کے کئی سوالات عمل نے دنیا میں ایک نیا در پیدا کیا تھا۔ ان سے مقابلہ کرنے کے لیے اس کو جاتا مضر و ری تھا۔ اس نے دور کے دونوں پہلوں تھے۔ ایک، شاکر انسانی میں تبدیلی۔ دوسرا، معیار قوت کا بدلتا جانا۔ آئندہ صفات میں ان دونوں پہلوؤں کی مختصر و مباحثت کی جائے گی۔

علماء کی دور جدید سے بے خبری کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ایسا ترتیب تیار نہ کر سکے جو جدید ذہن کو مطمئن کرنے والا ہو۔ شاہ ولی اللہ سے لے کر سید قطب بیک، میرے علم کے مطابق، مسلم علماء کوئی ایک کتاب بھی ایسی تیار نہ کر سکے جو آج کے مطلوبہ معیار پر پوری اتریقی ہو۔ ان سب پر البرٹ ہورانی کا تبصرہ صارق آتا ہے کہ موجودہ زمانہ کے مسلمانوں کی پیشتر اسلامی تحریریں عصری تحریر کی ہم سطح نہیں ہیں:

Most of the writings of Islam by Muslims "is not on the level of current thought." (Albert Hourani)

دور جدید کے علماء کا جو مطبوعہ ریکارڈ ہمارے سامنے ہے، اس کی روشنی میں یہ کہا جاتا خواہیز نہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ جانتے ہی نہیں کہ عقلی بیان (reasoned statement) کیا ہے۔ اس سلسلہ میں روایتی علماء کا تذکرہ نہیں، کیوں کہ وہ اس معاملہ کی الف ب بھی نہیں جانتے۔ خود وہ علماء جو اپنے معتقدین کے درمیان "جمع البحرین" بخچے جاتے ہیں وہ بھی اس سے ناقص نظر آتے ہیں۔

مثال کے طور پر، مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی نے سورہ الجراثیت کی تفسیر کے تحت "مسلمانوں کی باہمی جنگ" کے مسئلہ پر کئی صفحہ کا حاشیہ لکھا ہے۔ اس مسلم میں وہ لکھتے ہیں کہ ظالم مسلم حکومت کے خلاف خروج کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ اس بارہ میں فہار اسلام کے درمیان سخت اختلاف واقع ہو گیا ہے۔

اس ابتدائی بیان کے فوراً بعد لکھتے ہیں : "جمور فقہا، اور اہل الحدیث کی رائے یہ ہے کہ جس ائمہ کی امارت ایک دفعہ قائم ہو چکی ہو اور مملکت کا امن و امان اور نظم و نسق اس کے انتظام میں چل رہا ہو، وہ خواہ عادل ہو یا ظالم، اور اس کی امارت خواہ کسی طور پر قائم ہوئی ہو، اس کے خلاف خروج کرنا حرام ہے، الایک کہ وہ کفر صریح کا ارتکاب کرے۔۔۔ اس پر امام نووی اجماع کا دعویٰ کرتے ہیں" (تفہیم القرآن ۴۹/۵ - ۸۰)

یہ دونوں پیراگراف ایک دوسرے کی صد ہیں۔ کیوں کہ جب ایک معاملہ میں جمور فقہا کی ایک رائے ہو، حتیٰ کہ اس پر علماء و فقہاء کا اجماع ہو چکا ہو تو اس کے بارہ میں یہ کہنا بالکل بے معنی ہے کہ اس مسئلہ میں فقہاء کے درمیان سخت اختلاف واقع ہو گیا ہے۔

"ابحاد فی الاسلام" مولانا ابوالاعلیٰ مودودی کی مرکزیۃ الارکاتب بھی جاتی ہے۔ اس کے دیباچہ میں مولانا ابوالاعلیٰ مودودی کی مرکزیۃ الارکاتب بھی جاتی ہے۔ اس کے پس جو بہتان تراشے ہیں، ان میں سب سے بڑا بہتان یہ ہے کہ اسلام ایک خونخوار مذہب ہے اور اپنے پیروؤں کو خوب ریزی کی تعلیم دیتا ہے۔ اس بہتان کی اگر کچھ حقیقت ہوئی تو قدرتی طور پر اس وقت پیش ہونا چاہیے تھا جب پیروان اسلام کی شمشیر خاراشکاف نے کرہ زمین میں ایک ہمکار پر پا کر رکھا تھا اور فی الواقع دنیا کو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ شاید ان کے یہ فاتحانہ اقدامات کسی خوب ریز تعلیم کا نتیجہ ہوں۔" (ابحاد فی الاسلام، دہلی ۱۹۸۳ء، صفحہ ۱۵)

اس عبارت کا آخری حصہ اس کے پہلے حصہ کی تردید ہے۔ آخری حصہ میں مصنف خود بیات مان رہے ہیں کہ مسلمان اپنی شمشیر خاراشکاف لے کر اقوام عالم پر ٹوٹ پڑے۔ پھر یہی تو وہ بات ہے جس کو علماء پورپ کہتے ہیں۔ ایسی حالت میں اس کو بہتان کس طرح قرار دیا جائے گا۔

سید قطب کی تفسیر قرآن بہت مشہور ہے جو چھ جلدوں میں قاہرو سے شائع ہوئی ہے۔ مجموعی طور پر اس کے چار ہزار سے زیادہ صفحات میں مگر پوری تفسیر غیر علیٰ انداز میں ہے۔ اس میں انشاد کا حسن تو یقیناً بے مکر حیقیقی علیٰ استدلال سے وہ تقریباً خالی ہے۔

مثال کے طور پر وہ سورہ فصلت کی آیت ۲۲-۲۳ کی تشریع اس طرح کرتے ہیں :

(وَإِنَّهُ لَكَتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْمُلُهُ الْمَاطِلُونَ بَيْنَ يَدِيهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ، تَنْزَلِهِ مِنْ

حکیم حمید) و اُنْ لِلْبَاطِلِ اُنْ يَدْخُلْ عَلٰی هَذَا الْكِتَابُ، وَهُوَ مَادِرُ بَنِ اللَّهِ الْأَعْلَى۔
يَضْدَعُ بِالْحَقِّ وَيَتَصَلُّ بِالْحَقِّ الَّذِي تَقْرُمُ عَلَيْهِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ وَإِنَّ يَائِيَةَ
الْبَاطِلِ وَهُوَ عَزِيزٌ مَحْفُوظٌ بِاِمْرِ اللَّهِ۔ (فِي ظِلَالِ الْقُرْآنِ ۵/۳۱۲۴)

یہ تفسیر محض ایک ادبی تفسیر ہے۔ اس کا علمی یا عقلی تفسیر کے کوئی تعلق نہیں۔

سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور فرعون کا مکالمہ نقل فرمایا ہے۔ اس میں حضرت
موسیٰ کی دعوت کے جواب میں فرعون اپنے درباریوں کو خاطب کرتے ہوئے تقریر کرتا ہے اور
ان کو موسیٰ کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے جو بظاہر موسیٰ کے خطاب سے متاثر ہو رہے
ہوتے۔ اس تقریر میں فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا کہ موسیٰ چاہتے ہیں کہ تم کو تمہارے ہلک مصر
سے نکال دیں (رِیسِ دِین یَخْرُجُ حکْمُ مِنْ أَرْضِكُمْ) اس کی تشریع سید قطب نے ان الفاظ
میں کہا ہے :

إِنَّهُمْ يُصْرَحُونَ بِالْنَّتْيِيجِ الْمَاهِلَةِ الَّتِي
تَقْرَرُ مِنْ إِغْلَانِ تَلْكَ الْحَقِيقَةِ۔ إِنَّهَا
الْخَرْوَجُ مِنَ الْأَرْضِ۔ اِنْهَا ذَهَابُ
السُّلْطَانِ۔ إِنَّهَا إِبْطَالُ شَرِعِيَّةِ الْحَكْمِ۔
أَوْ مُخَالَةُ قُلُوبِ نَظَامِ الْحَكْمِ، بِالْتَّعْبِيرِ
الْعَصْرِيِّ الْحَدِيثِ (۱۹۲۸/۲)

آیت کی یہ تشریع سراسر غیر علیٰ اور غیر عقلی ہے۔ کیوں کہ قرآن میں جب موسیٰ اور فرعون دونوں
کا کلام موجود ہے تو موسیٰ کی دعوت کو موسیٰ کے کلام سے معلوم کیا جائے گا زکر فرعون کے کلام سے۔
فرعون کی تقریر سے موسیٰ کا مقصد اخذ کرنا ایسا ہی ہے جیسے سید قطب کی تحریک کے مقصد کو
جمال عبد الناصر کے بیان سے اخذ کیا جائے۔

ایک مغربی حوالہ

ملائِر روپیوں (پیدائش ۱۹۲۶) ایک انگریزی جرنلسٹ ہیں۔ انہوں نے عرب ملکوں کا اس فر
کیا ہے اور عربی زبان سیکھی ہے۔ مسلم مصنفوں کا بھی انہوں نے مطالعہ کیا ہے۔ جدید ذہنیاں میں اسلام

کے موضوع پر ان کی ایک .. ہم صفو کی کتاب ہے جو پتوں کی طرف سے شائع کی گئی ہے :

Malise Ruthven, *Islam in the World*, New York 1984, pp.400

اس کتاب کا ساتواں باب "اسلام اور مغربی چیلنج" سے تعلق رکھتا ہے۔ اس باب میں انہوں نے مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کے لمپھر کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مغربی پکلو اور مغربی نظر کی اعلیٰ روایات سے بے خبر رہ کر، ان کے خیالات زیادہ ترشافوی ذرا شائع پر مبنی ہیں جو سماجی مسائل کے بارہ میں مضاف میں اور اخبارات کو پڑھ کر ادھر ادھر سے لے لیے گئے ہیں۔ وہ تنقید کے اس اصول کو کبھی بھی ہم عصر مسلم سماج پر چیپاں نہیں کرتے۔ وہ ہمیشہ اسلام کی اصولی معیاریت کا مقابل مغربی سماج کی عملی غیرمعیاریت سے کرتے ہیں۔ مثل کا مقابل مثل سے نہیں کیا جاتا :

Largely ignorant of Western high cultural and intellectual traditions, his views are mostly picked up, second hand, from reading articles in newspapers about various social problems. He never applies the same canons of criticism to contemporary Muslim societies: the perfection of 'Islam' is forever compared with the actual imperfections of Western society: like is not compared with like (p. 327).

مثال کے طور پر مولانا مودودی کی کتاب الجہاد فی الاسلام میں ایک طرف قرآن و حدیث کے حوالے ہیں اور دوسری طرف مغربی واقعات کے حوالے۔ گویا اس کتاب میں آئیڈیل کا مقابل پر لکھیں سے کیا گیا ہے۔ یہ سید قطب اور موجودہ زمانے کے دوسرے مصنفین کا حال ہے۔ وہ "مسلمان" کا مقابل "مغربی" سے نہیں کرتے، بلکہ اسلام کا مقابل مغربی سے کرتے ہیں۔ میں اقوامی معاملات میں اسلام کی نمائندگی کے لیے وہ جماعت الوداع کا خطبہ پیش کریں گے اور مغرب کی نمائندگی کے لیے مغرب کی واقعی سوسائٹی کو۔ حالانکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ جماعت الوداع کے خطبہ کا مقابل اقوام متحده کے حقوق انسانی کے مشورے کیا جائے۔ اور مغربی حکومتوں کا مقابل مسلم حکومتوں سے — یہی حال موجودہ زمانہ میں لکھی جانے والی تسانی کتابوں کا ہے۔

حجۃ اللہ ال بالغہ

شاہ ولی اللہ دہلوی کی کتاب حجۃ اللہ ال بالغہ بہت مشور کتاب ہے۔ اس کو اسلام کی مدلل ترجمانی کہا جاتا ہے۔ مصنف نے کتاب کے آغاز میں لکھا ہے کہ یہ کتاب میں نے علم اسرار الدین پر لکھی ہے۔

تہذیب خیال یہ تھا کہ شریعت کے احکام مصالح پر مبنی نہیں ہوتے۔ یہ گویا آقا کی طرف سے اپنے
مے کے لیے حکم ہے اور اس کی اطاعت یا عصيان پر جزا اوس زماں کا فصل کیا جاتا ہے۔
مصنف نے قرآن و حدیث کی بہت سی مثالیں دے کر بتایا ہے کہ یہ خیال صحیح نہیں۔ کیونکہ خود
مارع نے اپنے متعدد احکام میں یہ اشارہ کیا ہے کہ وہ مصالح پر مبنی ہیں۔ مثلاً و لکم فی القصاص
صیات یا اولی الالباب (ابن القاسم، ۱۰۹) یا صدقہ کے بارہ میں یہ حدیث کہ تو شذ من اغنى الله عنهم فترد
مل فقرانہم۔ اسی طرح انھوں نے صحابہ و تابعین کے کچھ اقوال جمیع کے ہیں جن میں مصالح احکام کا
ذکر ہے بعد کے زمانہ میں علماء کے یہاں بھی جزوی طور پر اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ مثلاً الفرزائی،
لخظائی، ابن عبد السلام وغیرہ (۶-۳)

تہذیب حجۃ اللہ البالغہ کا معاملہ ایک استثنائی معاملہ ہے۔ کیونکہ کتاب مکمل طور پر اسرار شریعت ہی
کے موضوع پر ہے۔ مصنف کے بیان کے مطابق، ان کو بطریقہ کشف اس کا اشارہ ملا۔ پھر اللہ نے ان
پر ہمام کیا (شم العینی رضی) کہ وہ اس قسم کی ایک کتاب لکھیں۔ حتیٰ کہ خواب میں حضرات حسین بن نبی
پو ایک قلم دیا اور کہا کہ : هذا قدیم جدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس قسم کی چیزیں
بناتے ہوئے شاہ صاحب لکھتے ہیں :

إن الشريعة المضطفيّة أشرف
فهذا الزمان على أن تُنجز فقصص
علماء، خاص طور پر ہندستانی علماء، اس کتاب کو ایک معرکہ الاراد کتاب سمجھتے ہیں۔ ان کے
نزدیک اس میں موجودہ دور عقلیت کے لیے تشفی کا وافر سامان موجود ہے۔ حتیٰ کہ ان کا خیال ہے کہ
اسی نہ ہب کی عقلی تائید اور اس کی حکیمانہ توجیہ کے موضوع پر آج تک اس پا یہ کی کتاب نہیں
لکھی گئی (۲۱۶) نواب صدیق حسن خاں (۱۸۹۰-۱۸۲۲) نے لکھا ہے کہ اسرار احکام کے موضوع
پر بارہ سو سال کے درمیان عرب و عجم کے کسی عالم کی ایسی کوئی کتاب موجود نہیں (مثلاً آں دریں
دووازدہ صد سال ہجربی یعنی کیے از علماء عرب و عجم تصنیف موجود نیا مددہ)

میرے پاس حجۃ اللہ البالغہ کا وہ نسخہ ہے جو قاہرہ (دارالتراث) سے ۱۲۵۵ھ میں چھپا ہے۔

اس کا جزو اول ۱۹۸ صفحہ پر شتمل ہے اور جزو ثانی ۲۱۵ صفحہ پر۔ زیر نظر مقامات کی ترتیب کے دوراً میں نے اس کتاب کو تقریباً مکمل دیکھا۔ بعض حصے کمی کمی بار پڑھے۔ مگر میں بلا مبالغہ مضمون کرتا ہوں کہ مجھے ساری کتاب میں کوئی ایک بھی ایسا بیان نہیں ملا جس کو جدید سائنسی معیار کے مطابق، عقلی دلیل کا درجہ دیا جاسکتا ہو۔

کتاب کا نام (جستہ اللہ بالغ) جو قرآن کی ایک آیت سے مأخوذه ہے، وہ بلاشبہ نہایت اعلیٰ ہے۔ مگر اصل کتاب جماعت بالغ کے انداز میں نہیں، بلکہ صرف تقليدی انداز میں شریعت اسلامی کی تشرییع کرتی ہے۔ اس کتاب کی ترتیب بنیادی طور پر کتب فرقہ کی ترتیب پر قائم کی گئی ہے۔ یہ ترتیب بذات خود اس بات کا ثبوت ہے کہ شاہ ولی اللہ قدیم تقليدی ذہن اچھے سے باہر نہ کل سکے۔ کیوں کہ ابواب فرقہ دراصل ابواب احکام ہیں نہ کہ ابواب اسرار۔

کتاب کے مباحث عام طور پر *إغاثة* کے لفظ سے شروع ہوتے ہیں۔ یہ بھی تقليدی مزاد کا ثبوت ہے۔ یہ اس دور کا انداز کلام ہے جب کہ آدمی مقام عالم سے بوتا تھا۔ جدید انداز کلام مقام علم سے بولنے کا ہے۔ مگر شاہ ولی اللہ اس فرقہ کو سمجھنے سکے۔ اسی طرح کتاب میں جگہ جگہ نہیں لکھا گیا ہے۔ یہ بھی ایک غیر علمی اسلوب ہے جو صرف اعتقادی کتابوں کے لیے موزوں ہے۔ علمی اعتبارات اصل موضوع بحث یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ ہمارے نبی تھے۔ اصل موضوع بحث یہ ہے کہ کیا وہ خدا کے نیات تھے۔ اس کتاب میں *مُرْتَه* سے لے کر سیاست مدن تک ہر چیز پر کلام کیا گیا ہے، مگر سب کا بیس تقليدی اور اعتقادی اسلوب میں ہے نہ حقیقتہ علمی اسلوب میں۔

مثال کے طور پر نیت اور عبادت کی تشرییع میں یہ الفاظ لکھے گئے ہیں : اعلم من النب روح والعبادة جسد ولا حياة للجسد بدون الروح (البخاری الثانی ۸۸) یعنی جان لو کرنے کی نیت روح ہے اور عبادت جسم ہے۔ اور روح کے بغیر جسم کی کوئی زندگی نہیں۔

اسرار الصلاۃ کے تحت لکھتے ہیں : أحسن الصلاۃ ما كان جامعاً بين الأرضاع الثلاث متعرقياً من الأدنى إلى الأعلى ليحصل الترقى في استشعار الخصوص والمتذلل (الجزء الاول، ۱۳) یعنی بہترین نمازوں ہے جس میں تینوں وضع جمع ہو جائے۔ جس میں ادنی سے اعلیٰ کی طرف ترقی ہو رہیا پھر رکوع پھر سجدہ تاکہ خصوص اور متذلل کو محسوس کرنے کی طرف ترقی حاصل ہو سکے۔

اسرار الحج کے تحت لکھتے ہیں : رِيمَاءِ شَفَاقُ الْإِنْسَانُ إِلَى رَبِّهِ أَشَدُّ شُوقٍ فیحاجُ الْمُشْیی يَقْضی بِهِ شُوْقَهُ فَلَا يَحْدُهُ إِلَّا الحج (الجزء الاول ۵-۶، ۱۷) یعنی بھی انسان کے اندر اپنے رب کے لیے شدید شوق پیدا ہوتا ہے۔ پس وہ ایک ایسی چیز کا محتاج ہوتا ہے جس سے وہ اپنے شوق کو پورا کرے۔ اس وقت وہج کے سوا کوئی اور چیز نہیں پاتا جس سے وہ اپنے شوق کو پورا کرے۔ اسی قسم کی تشریفات پوری کتاب میں پھیلی ہوئی ہیں۔ مگر اس قسم کی باتیں شریعت کی واعظانہ تفہیم ہیں۔ وہ کسی بھی درجہ میں شریعت کی علمی اور عقلی وضاحت نہیں۔ جو لوگ اس کو عقلی وضاحت بھیجیں ان کے بارہ میں صرف یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ ”عقلی وضاحت“ کا مطلب نہیں جانتے۔

حجۃ اللہ باللغہ کو پڑھنے کے بعد میں نے سوچا کہ اس کتاب کے بارہ میں میری رائے اور دوسرے علماء کی رائے اتنی زیادہ مختلف کیوں ہے۔ آخر کار میری بھی میں آیا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرے علماء اس کتاب کو قدیم کے معیار پر دیکھتے ہیں اور میں اس کو جدید کے معیار پر دیکھ رہا ہوں۔ علماء کے پاس ایک ہی معلوم معیار ہے اور وہ اسلامی کتب خانہ کی قدیم کتابوں کا ہے۔ اس معیار پر دیکھنے میں جمۃ اللہ باللغہ اخھیں ایک منفرد کتاب معلوم ہوتی ہے۔ اس یہ وہ اعلان کردیتے ہیں کہ وہ ایک معربۃ الاراء قسم کی عقلی کتاب ہے۔ مگر میں اس کو جدید معیار تعلق پر جانپنا ہوں تو مجھ کو نظر آتا ہے کہ وہ سرے سے کوئی عقلی کتاب ہی نہیں۔

اس کتاب کے ذریحے اگریکہیں کہ قدیم ذخیرہ کتب کے مقابلہ میں وہ ایک ممتاز کتاب ہے تو مجھے ان سے کوئی اختلاف نہ ہوگا۔ لیکن اگر وہ اس کتاب کو عقلی معیار استدلال کا اعلیٰ نمونہ بتائیں تو میری تنقید باقی رہے گی۔ کیوں کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ اس کتاب کا عقلی معیار استدلال سے کوئی تعلق نہیں۔

غیر علی انداز

مولانا ابو الحسن علی ندوی کی کتاب ماذا خسرا العالم بخطاط السینین پر مصری عالم سید قطب کا مفت درہ شامل کیا گیا ہے۔ سید قطب نے اس کتاب کا تعارف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس کتاب میں جو باتیں ہی گئی ہیں، ان کے سلسلہ میں مصنف نے بعض وجدانی قسم کی باتوں پر اعتماد نہیں کیا ہے بلکہ یہ کتاب موضوعی حقائق کو اپناؤزدیرہ استدلال بناتی ہے (بلیت خذالحقائق الموضوعیۃ)

آداتَةَ، صفحہ ۱۸)

اب اس کی روشنی میں اصل کتاب کو دیکھئے۔ مولانا موصوف کی اس کتاب کا مرکزی خیال یہ ہے کہ مسلمان قیادہ الامم (صفر ۳۲) کے منصب پر سرفراز کیے گئے ہیں۔ کتاب کے تصدیر تکار دکتور محمد یوسف موی نے اس کے لیے قیادہ الانسانیت (۱۲) کا لفظ استعمال کیا ہے۔ صاحب مقدمہ سید قطب کے نزدیک ، اس کتاب کا مقصد مسلمانوں کو قیادت عالم کی بازیابی (رد القیادۃ العالمیۃ، ۲۲) پر ابھارنا ہے۔

اگر یہ کتاب موضوعی اصول پر لکھی گئی ہے تو مصنف کا سب سے پہلا کام ہی تھا کہ وہ قرآن و حدیث کی واضح نص سے اپنے اس دعوے کو ثابت کریں کہ مسلمان کا منصب یہ ہے کہ وہ دنیا کا قائد اور اقوام کا کام بنے۔ مگر ۲۲۴ صفحات کی اس کتاب میں کہیں بھی قرآن و حدیث کے دلائل سے یہ ثابت نہیں کیا گیا ہے کہ مسلمان کا منصب سارے عالم کی قیادت و امامت ہے۔ ساری کتاب میں اس نوعیت کی صرف ایک دلیل دی گئی ہے۔ اور وہ اقبال کا شعر ہے جو انھوں نے ابلیس کی مفروضہ مجلس شوریٰ کی بنیاد پر کہا ہے۔ مصنف نے کتاب کے صفحہ ۲۸۵ سے، اقبال کی اس تخلیقی نظم کا ترجمہ دیا ہے۔ اس نظم میں اقبال نے ابلیس کی زبان سے یہ شعر نظم کیا تھا :

ہر فرش ڈرتا ہوں اس امرت کی بیداری میں ہے حقیقت جس کے دل کی اشتاب کائنات
مگر اصل موضوع کی نسبت سے اقبال کا یہ حوالہ سرا سر غیر علمی ہے۔ اصل بات ثابت کرنے کے لیے مصنف کو یا تو ایسی کوئی آیت یا حدیث پیش کرنی چاہیے جس میں عبارت النص کی سطح پر ان کا ذکر وہ نقطہ و نظر ثابت ہوتا ہو۔ یا پھر وہ یہ ثابت کریں کہ شریعت کی مشائخ کو جاننے کا مأخذ صرف اللہ اور رسول کا کلام نہیں۔ بلکہ اس کا ایک تیسرا مأخذ بھی ہے، اور وہ ابلیس کا کلام ہے۔

اس طرح کی کتابوں کے بارے میں یہ کہا کہ وہ علمی اور موضوعی کی بنیاد پر لکھی گئی ہیں، یا یہ ثابت کرتا ہے کہ موجودہ زمان کے علماء نے صرف یہ کہ وہ حقائق موضوعی کی بنیاد پر مطلوبہ لٹریچر تیار نہ کر سکے۔ بلکہ وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ حقائق موضوعی کی بنیاد پر لٹریچر تیار کرنے کا مطلب کیا ہے۔

استدلال کا معیار

اصول استدلال کے سلسلہ میں ٹھوڑا غلطی عالم اشاطی نے ایک بہت بنیادی بات کہی ہے۔ وہ اپنی کتاب المواقفات فی اصول الاحکام میں علم الجدل کے قواعد بتاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ کسی دعویٰ

یہ حق میں جب کوئی دلیل دی جائے تو ذروری ہے کہ مخاطب اس کا دلیل ہونا تسلیم کرتا ہو۔ اگر میں فرقی خانی کے نزدیک نزاگی ہو تو وہ اس کے نزدیک دلیل نہیں ہوگی۔ ایسی دلیل کو پیش کرنا بے کار ہوگا، اس سے نہ کوئی فائدہ ملے گا اور نہ کوئی مقصد حاصل ہو گا (اذا كان الدليل عند الخصم
ناء عَفْيَه فليس عندَه بِدَلِيلٍ فصار الامْتِيَانُ مُبَدِّلاً يُفْنِي فَأَنْذَدَهُ لَا يَحْصُلُ مَقْصُودًا) الجواہر الرائی، ص ۱۷۸

اس کا مطلب یہ ہے کہ دلیل وہ ہے جو مخاطب کے مسلم معيار کے مطابق ہو۔ جو دلیل کسی بھی بنیاد پر قائم کی جائے جو مخاطب کے نزدیک مسلم نہ ہو وہ اس کے لیے دلیل بھی نہیں بن سکتی۔

چند مثالیں

۱۔ ابن تیمیہ (۱۲۶۲-۱۳۲۸) اپنی بہت سی خصوصیات کے ساتھ متكلم بھی سمجھے جاتے ہیں۔
ثوانی کی اکثر دلیلیں اشاطی کے مذکورہ معیار پر پوری نہیں اترتیں۔ کم از کم موجودہ زمانہ میں ان
ماقیمت بہت کم ہو گئی ہے۔

ابن تیمیہ نے اپنی ایک ^{رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مراجع کے جمافی مراجع ہونے}
باقی دلیل دی ہے۔ ان کی دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ نصاریٰ کہتے ہیں کہ سچ نے اپنے جسم اور روح کے
امراز آسمان کی طرف صعود کیا (ان المُسِيَّخ ضَبَّعَ الدِّسَاءِ بِبَدْنَهُ وَرُوحَهُ) اسی سفر حجہ اہل
ناب کا عقیدہ ہے کہ الیاس نے اپنے جسم کے ساتھ آسمان کی طرف صعود کیا (ان الْيَاسَ ضَبَّعَ إِلَى
لِحَمَاءِ بِبَدْنَهُ) الجواب الصالح لمن بدل دین الحج ۴۰/۲ - ۱۶۹

جمافی مراجع کی یہ دلیل کسی مخصوص مخاطب کے لیے جدی یا الزامی طور پر دلیل بن سکتی ہے جو
حضرت مسیح اور حضرت الیاس کے جمافی صعود کا عقیدہ رکھتا ہو۔ مگر اصل مسئلہ جدی یا الزامی دلیل کا
ہیں ہے بلکہ علمی اور عقلی دلیل کا ہے۔ علمی اور عقلی دلیل وہ ہے جس کی بنیاد ایسے معلوم حقائق پر رکھی
گئی ہو جو اہل علم کے یہاں عمومی طور پر تسلیم شدہ ہوں۔ چونکو یہ دویٰ علم مسلم نہیں ہے کہ سچ اور
الیاس نے اپنے دنیوی جسم کے ساتھ آسمان کی طرف صعود کیا اس لیے مذکورہ دلیل عقلی دلیل بھی نہیں۔

۲۔ جیسا کہ معلوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پار سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت
تھی۔ حتیٰ کہ اپنے ہمراں بخیر بھی کسی عورت کو اپنے نکاح میں لے سکتے تھے۔ اس کثرت ازوادج پر مخالفین
کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے مولانا شبیر احمد عثمانی (۱۹۲۹-۱۹۸۸) اپنی تفسیر قرآن میں لکھتے ہیں :

”یہ اس اکمل البشر کی سیرت کا ذکر ہے جس نے خود اپنی نسبت فرمایا کہ مجھ کو جو جہانی قوت عطا ہو رہے وہ اہل جنت میں سے چالیس مردوں کے برابر ہے جن میں سے ایک مرد کی قوت سو کے برابر ہو گی۔ گویا اس حساب سے دنیا کے چار ہزار مردوں کے برابر قوت حضور کو عطا فرمائی گئی تھی۔ اس حساب سے اگر فرض کیجئے چار ہزار بیویاں آپ کے نکاح میں ہوتیں تو آپ کی قوت کے اعتبار سے اس درجہ میں شمار کیا جاسکتا تھا جیسے ایک مرد ایک محنت سے نکاح کر لے۔ لیکن اللہ اکبر، اس شدید ریاضت اور ضبط نفس کا کیا نٹکا ہے کہ تین سال کی عمر زہب کی حالت میں گزار دی۔ پھر حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد حضرت عائشہؓ سے عقد کیا۔ ان کے سوا آٹھ بیویاں آپ کے نکاح میں آئیں۔ وفات کے بعد نو موجود تھیں۔ دنیا کا سب سے بڑا انسان جو اپنے فطری قوی کے لحاظ سے کم از کم چار ہزار بیویوں کا ستحی ہو، کیا نو کا عدد دیکھ کر کوئی انصاف پسند اس پر کثرت ازدواج کا الزام رکھ سکتا ہے (صفحہ ۵۰)

مذکورہ اعتراض کا یہ جواب مخالفین کو مطمئن نہیں کر سکتا۔ اس جواب کی بنیاد اس عقیدہ پر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے چار ہزار مردوں کے برابر طاقت حاصل تھی۔ مگر مجیب اور اس کے مخاطب کے درمیان یہ امت متفق طیب نہیں۔ اس لیے مخاطب کی نسبت سے وہ عقلی دلیل بھی نہیں بن سکتا۔

۲۔ شاہ ولی اللہ دہلوی کی کتاب جمۃ اللہ البالغۃ میں ”بحث فی الجہاد“ کے عنوان سے صفحات کا فصل باب ہے۔ اس باب کا آغاز اس جملے سے ہوتا ہے —— جان لو کہ سب سے زیادہ کامل شرع اور سب سے زیادہ کامل قانون وہ شریعت ہے جس میں جہاد کا حکم دیا جائے (إعلم أن اتم الشرع وأكمل النعمان هو الشرع الذي يُؤْمِنُ فِيهِ بالجهاد) الجہاد، صفحہ ۰۰۱،

جہاد (معنی قتال) کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے۔ اس کی وجہ صاحب کتاب یہ بتاتے ہیں کہ ایسا قتال انسانیت کے حق میں رحمت ہے۔ اہل فساد جب دلیل وجہت سے نہ مانیں تو ان کے خلاف تشدد کرنا پڑتا ہے تاکہ ان کے ظلم و شر سے انسانوں کو نجات دے دی جائے۔ اور خود ظالموں کو بزور دین صحیح اختیار کرنے پر مجبور کیا جائے جو ان کے لیے خیر ہے مگر وہ اپنی نادانی کی بستا پر اس کو نہیں سمجھتے۔ یہ قتال ایسا ہی ہے جیسے کوئی ڈاکٹر جسم کے سڑے ہوئے چھپو

دھا صاحب جسم کے علی الرغم کاٹ کر پہنچنک دے :

الْمُشْرِقُ الْقَلِيلُ إِذَا كَانَ مَفْضُلًا إِلَى الْخَيْرِ الْكَثِيرِ
أَوْ رَتْهُورُ اشْرِجَبْ زِيَادَهُ خَيْرُكَ طَرفَ لَهُ جَانِي
الْأَجْبَ، فَعَلَهُ (البُحْرَ، الْأَثَانُ، صَفَرُ، ۰۰) وَالْأَهْوَانُ
قَتَالَ كَمْ حَقِّ مِنْ شَاهَ دُولَ الْأَدَمِيَّيْدَ لِيْلَ جَدِيدَ اسَانَ كَمْ سَلَاتَ كَمْ مَطَابِقَ هَمِينَ۔ اسَ كَوْسَنَ
رَجَدِيدَ اسَانَ كَهْ كَهْ كَهْ آپَ كَاجْدَبَ صَالَعَ قَابِلَ قَدَرَهُ۔ مَنْجَرَ آپَ كَيْ اِسِيمَ سَرَاسِرَ نَادَانِيَ كَيْ اِسِيمَ ہَے۔
پَكَيْ تَوْجِيْهَ تَلَارَوْنَ کَيْ لَرَانِيَ کَزَانِ مِنْ بَاوزَنَ مَحْسُونَ ہَوْكَتِيَ تَقَنَ۔ مَنْجَرَ مَوْجُودَهُ زَانِهَ کَيْ لَرَانِيَ
بَنَ وَهُ بَالَكَلَ بَئِيْ مَعْنَيَ ہَے۔ کَيْوَنَ كَنْنَهُ هَتِيَارَبَنَ جَانِيَ کَعَدَابَ لَرَانِيَ خَوْدَتَامَ بِرَانِيَوْنَ سَے
ـ یَادَهُ بِرَهِيَ بِرَانِيَ بَنَ پَچَکَ ہَے۔

آجَ کَيْ لَرَانِيَ اِيْمَ بَمَ کَيْ لَرَانِيَ ہَے۔ اور اگر اِيْمَ بَمَ کَيْ لَرَانِيَ چَجِيرِيَ جَانِيَ جَنَگَ کَيْ
لَرَحَ اسَ کَانْقَصَانَ ضَرَفَ مَقَاتِلَ اَفْرَادِتَکَ يَاجَنَگَ کَے مَيَدَانَ بَلَکَ مَحْدُودَهُ نَهِيَنَ رَهَے گَـا۔ بلَکَ پُورَے
زَرَهُ اَرْضَ پَرَ اسَ کَيْ اَثَرَاتَ بَصِيلَ جَائِيَنَ گَـے۔ حَتَّىَ كَمْ اسَ کَعَدَ زَمِينَ ہَيْ تَاقَابِلَ رَهَائِشَ ہَوْ جَانِيَ گَـى۔
بَهْرَجَبْ خَوْدَ اَنْسَانِيَ دَنِيَا ہَيْ بَاقِيَ نَزَرَ ہَے گَـى تَوْهَهُ كَونَ سَامَقَامَ ہَوْ گَـا جَهَالَ آپَ جَنَگَ جَيْتَ كَـر
پَنَانِظَامَ خَيْرَ قَاعِمَ كَـرِيْنَ گَـى۔

۳۔ مَوَلَّاتَا أَبُو الْأَعْلَى مُودَودِيَ کَيْ تَشِيرَ تَقْيِيمَ الْقُرْآنَ چَهَ جَلَدَوْنَ مِنْ ہَے۔ اسَ کَيْ پَانِچَوْنَ جَلدَ مِنْ
سُورَهُ الصَّفَ (آیَت ۴) کَيْ تَشْرِيْعَ کَے تَحْتَ انجِيلَ بِرَنَابَاسَ کَا حَوَالَ دِيَـگَـيَ ہَے۔ اسَ انجِيلَ کَے تَعَارِفَ
وَرَاسَ کَے اَقْتَبَاسَاتَ پَرَ تَقْيِيمَ الْقُرْآنَ مِنْ دَسَ صَفَحَهُ شَاملَ یَكَيْ گَـى ہَيْ۔ اسَ انجِيلَ کَے بَيَانَاتَ
سَلَمَانُوںَ کَے عَقَادَهُ سَے بَهْتَ زَيَادَهُ مَلَتَ جَلَتَ ہَيْ۔ حَتَّىَ كَمْ اسَ مِنْ "مُحَمَّد" کَانَامَ بَھِيَ مَوْجُودَ ہَے مِثَلًاً؛
سَرْدَارَ کَاهِنَ نَـے مَسَحَ سَے پَوَچَـا کَوَهَ آنَـے وَالْأَكْسَ نَـامَ سَے پَكَارَ اَجاَـنَے گَـا۔ مَسَحَ نَـے ہَـاکَ "سَوَاسَ کَـا
بَهَارَكَ نَـامَ مُحَمَّدَ ہَـے۔" اسَ انجِيلَ مِنْ درَجَ ہَـے :

"اَسَ مُحَمَّدَ، اَنْتَظَارَكَـر۔ کَيْوَنَ كَـتِيرِيَ ہَـیِ خَاطِـرِيَ مِنْ جَنَـتَ، دَنِيَا اوَرَ بَهْتَ سَـیِ مَخْلوقَ پَـیدَـا
رَوْنَ گَـا۔ اور اسَ کَوَ تَجَـهِـزَ کَـطَورَ پَـرَ دَوْنَ گَـا۔ یَهَـاں بَلَکَ كَـجَوَتِيرِيَ تَبَرِيْكَ كَـرَے گَـا سَـے بَرَكَـتَ
ـیِ جَانِيَ گَـى اور جَوَ تَجَـهِـزَ کَـرَے گَـا اسَ پَـرَ لَعْنَتَ کَـیِ جَانِيَ گَـى ۔"

مَوَلَّاتَا أَبُو الْأَعْلَى مُودَودِيَ کَے عَلَادَهُ مَوَلَّاتَا عَبْدَ الْمَاجِدَ دَرِيَا بَادِيَ وَغَيْرَهُ نَـے بَھِيَ انجِيلَ بِرَنَابَاسَ

کے ذریعہ موجودہ مسیحیت کی تردید کی ہے اور اس کے بیانات کی بنیاد پر مسلم موقف کو صحیح ثابت کرے۔ مگر علمی اعتبار سے یہ استدلال درست نہیں۔ کیوں کہ استدلال کی بنیاد صرف وہ چیز ہے کہ
جو متكلم اور مخاطب دونوں کے درمیان مسلم ہو۔ انجیل برنساس کی صحت یہاں کیوں کے یہاں
نہیں۔ اسی حالت میں یہاں کیوں کے مقابلہ میں وہ دلیل کس طرح بن سکتی ہے۔

صحیح کے بعد ابتدائی زمان میں انجیل کے بہت سے نسخے الگ الگ پائے جاتے تھے۔ دوسرا
صدی عیسوی میں یہی چرچ نے چار انجیلوں کو معتبر اور مسلم انجیل (Canonical gospels) قرار
دیا۔ اور بقیہ تمام انجیل کو غیر قانونی اور مشکوک الصحت (Apocryphal) بتا کر درکردیا، انجیل
برنساس انھیں رد کی ہوئی انجیلوں میں سے ایک ہے۔ اس بنا پر ہمارے اور مسیحی حضرات کے درمیان
انجیل برنساس کی جیشیت ایک مسلم بنیاد کی نہیں رہی، اسی حالت میں کسی مسلم عالم کے لیے انجیل برنسا
کی بنیاد پر مسیحیت کے مقابلہ میں کوئی دلیل قائم کرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی مسیحی عالم موجود روایا،
کی بنیاد پر اسلام کے بارہ میں کوئی بات ثابت کرے۔

اسلام اور اسلامی تاریخ کے بارہ میں موضوع روایتیں لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں
مسلم علماء ان روایتوں کی صحت کو نہیں مانتے، اس لیے وہ اسلام کے معاملہ میں کسی بات کو ثابت
کرنے کی معقول بنیاد نہیں بن سکتیں۔ یہی معاملہ برنساس کا بھی ہے۔

۵۔ مولانا شیر احمد عثمانی (۱۹۲۹-۱۸۸۸) کا شمارہ تاز علماء دیوبند میں ہوتا ہے۔ ان کو
تفسیر قرآن بہت مشور ہے جو انھوں نے ۱۳۵۰ میں لکھ کر مکمل کی تھی۔ انھوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ
علیہ وسلم کی امتیازی خصوصیت کو ثابت کرتے ہوئے سورہ النجم کی آیت ۷ کے تجھت لکھا ہے:
”جس طرح آسمان کے ستارے طلوع سے لے کر غروب تک ایک مقرر رفتار سے متقي
راستہ پر چلے جاتے ہیں، کبھی ادھر ادھر ہٹنے کا نام نہیں لیتے۔ (اسی طرح) آفتاب نبوت بھی الٰہ
کے مقرر کیے ہوئے راستہ پر برابر چلا جاتا ہے۔ ممکن نہیں کہ ایک قدم ادھر پا ادھر پڑ جائے۔ انہی
طیہم اسلام آسمان نبوت کے ستارے ہیں جن کی روشنی اور رفتار سے دنیا کی رہنمائی ہوتی ہے
اور جس طرح تمام ستاروں کے غائب ہونے کے بعد آفتاب درختان طلوع ہوتا ہے، ایسے ہی تما
انبیاء کی تشریف اوری کے بعد آفتاب محمدی مطلع حرب سے طلوع ہوا۔ (صفحہ ۶۸۲)

ویگر انہیاں کے اوپر سیغیر اسلام مکے اتیاز کو ثابت کرنے کے لیے اس عمارت میں ایک مثال
ہوا استعمال کیا گیا ہے۔ قدیم زمانہ میں مثال کو بطور دلیل استعمال کیا جا سکتا تھا۔ مگر موجودہ زمانہ کا انسان
مثال کو دلیل کا قائم مقام نہیں سمجھتا۔ اس لیے عقلی استدلال کے طالب کے لیے مذکورہ مثال
دلیل نہیں بن سکتی۔

اس سے قطع نظر، خود یہ مثال مکمل اور مخاطب کے درمیان کوئی متفق میلہ واقع نہیں۔ آج
کا ایک انسان ستاروں کو سورج سے چھوڑنا نہیں مانتا۔ اور زندہ ستاروں کے غائب ہونے
یادو بنتے کو تسلیم کرتا ہے۔ یہ دونوں مفلاہ ہر موجودہ زمانہ میں اضافی ہیں نہ کہ واقعی۔ پھر جب پیش
گردہ مثال کی واقعیت پر طرفین کا اتفاق نہ ہو تو وہ مخاطب کی نظر میں دلیل کس طرح بن سکتی ہے۔
۶۔ مولانا ابوالاعلیٰ مودودی (۱۹۰۲-۱۹۴۹) کی مشہور کتاب تہذیبات حصار دل میں ایک
مضبوں ہے جس کا عنوان ”عقل کا فیصلہ“ ہے۔ اس مضبوں کا مقصدر رسول کی رسالت کو عقلی دلیل
کے ذریعہ ثابت کرنا ہے۔ مگر جو دلیل دی گئی ہے، وہ مذکورہ معیار کے مطابق اعتقادی دلیل ہے نہ
رational دلیل۔

اس استدلال کا خلاصہ یہ ہے کہ پچھلے ہزاروں سال کے اندر کثرت سے ابھیار آئے۔ ایک طرف
یہ ہزاروں انبیاء سے جن کے درمیان باہمی طور پر کوئی اتصال نہ تھا۔ اس کے باوجود ان سب نے
ہمیشہ ایک ہی بات کہی۔ ان سب نے ہمیشہ ایک ہی بات کی طرف دعوت دی۔ انہوں نے کبھی
ایک دوسرے سے مختلف پیغام دنیا کو نہیں دیا۔ اس کے برخلاف ان کا انکار کرنے والوں کا حال
یہ تفاکر وہ ہمیشہ ایک دوسرے سے مختلف باتیں کرتے رہے۔ مدعاں رسالت محمد انجیال سے
اور کذبین رسالت مختلف انجیال۔

اب دونوں فریق کا اعماطل عقل کی عدالت میں پیش ہوتا ہے۔ عقل کی عدالت فیصلہ کرنی ہے
و محدث انجیال لوگ صحیح ہیں اور ایک سرچشمہ ہدایت سے بول رہے ہیں۔ اگر ان سب کا ایک
سرچشمہ ہوتا تو ان کے درمیان یہ کامل اتفاق ممکن نہ تھا، ان کے مقابلہ میں مختلف انجیال لوگ غلط
ہیں۔ ان کا کوئی واحد ذریعہ علم نہیں۔ اسی لیے ہر ایک الگ الگ باتیں کر رہا ہے۔

دور جدید کے صاحب عقل کے لیے یہ دلیل قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ کیوں کہ اس میں جس

چنین کو استدلال کی بنیاد بنا یا گیا ہے وہ صرف حکم کا عقیدہ ہے، وہ حکم اور مخاطب دونوں کا ختنگ ک سلسلہ نہیں۔ جدید انسان اس طرح کے معاملات میں صرف تاریخ کو معیار مانتا ہے۔ اور تاریخ ان میں کسی بات کا بھی ذکر نہیں کرتی۔ دونوں انسانی تاریخ میں نہ انبیاء کا کوئی ذکر ہے۔ اور زمان کے متحداً انجیال ہونے کا۔ اسی طرح تاریخ میں نہ کہذبین انبیاء کا ذکر ہے اور زمان کے مختلف انجیال ہونے کا مولانا ابوالاعلیٰ مودودی کا مضمون (عقل کا فیصلہ) بتاتا ہے کہ وہ اس بات کو نہیں جانتے تھے کہ موجودہ زمان میں عقلی استدلال کا معیار کیا ہے۔ انہوں نے نقی دلیل پر مبنی کرتے ہوئے ایک مضمون لکھا اور اس کے اوپر عقلی استدلال کا عنوان قائم کر دیا۔

خلاصہ بحث

- ۱۔ علماء اسلام کو سب سے پہلے شوری طور پر یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ انہیں عملی سیاست سے مکمل طور پر الگ رہنا ہے۔ ان کا اصل کام وہ ہے جو علم و فکر اور دعوت و اصلاح کے میدان میں انجام دیا جاتا ہے۔ سیاسی معاملات میں بوقت ضرورت وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ مگر سیاسی معاملات میں عملی حصہ لینا ان کے لیے کسی حال میں درست نہیں۔
- ۲۔ علماء کو مروجہ دینی تعلیم کے ساتھ لازمی طور پر عصر حاضر کے افکار سے بھی واقف ہونا چاہیے۔ اس کے بغیر وہ عصر حاضر میں اپنی ذمہ داریوں کو کاملاً ادا نہیں کر سکتے۔
- ۳۔ علماء کے یہاں ایک دوسرے کے خلاف تنقید کی مکملی اجازت ہونا چاہیے۔ اس کے بغیر لوگوں میں ذہنی جمود کا طوطنا اور حکیماز بصیرت کا پیدا ہونا ممکن نہیں۔
- ۴۔ علماء کے درمیان برداشت کے مزاج کو فروغ دینا چاہیے اور اختلاف کے باوجود اتحاد کا احوال پیدا کرنا چاہیے۔ جب تک ایسا نہ ہو، ملت کے اندر کوئی بڑا کام نہیں کیا جاسکتا۔
- ۵۔ امت کی تعلیم و تربیت کے ساتھ دوسرا اہم کام جو علماء کو انجام دینا ہے وہ دعوت الی اللہ ہے۔ یعنی غیر مسلم قوموں کو دین حق کا پیغام پہنچانا اور اس کے جزوی تقاضوں کو ملموحة رکھتے ہوئے اس کو آخری حد تک جاری رکھنا۔

عصری اسلوب میں اسلامی لٹریچر مولانا وحید الدین خاں کے قلم سے

30/-	مفترق سوتیں ۱	A-14	7/-	روشن مستقبل	-	انوار مکتوب	ادو
30/-	مفترق سوتیں ۲	A-15	7/-	صوم رعنان	B/-	تعیری طرف	200/- بلڈ اول
30/-	مفترق سوتیں ۳	A-16	7/-	صلح کلام	20/-	بسیاری تحریک	200/- بلڈ دوم
	ویڈیو کیسٹ	-	-	صدا قاتِ اسلام	20/-	تحبید یوں	الشہادہ
200/-	پیغمبر انقلاب	B-1	8/-	علماء اور دو رو بیدیہ	30/-	حقیقت اسلام	پیغمبر انقلاب
200/-	اسلام درجی اُس	V-2	7/-	ہندستانی مسلمان	-	مشہب اور مائن	مشہب اور بدین جیتنے
	-	V-3	-	سیرت رسول	8/-	قرآن لا مطلوب انسان	عقلت قرآن
	اسلام درجیہ کا خالق	-	-	-	-	-	عقلت اسلام
	-	V-4	3/-	ہندستان آزادی کی پری	5/-	دین کیا ہے	-
	استی سل اور بدین جیتنے	-	-	-	-	-	عقلت حبہ
	-	V-5	8/-	مازکرم تاریخ جنم کو دکھنے کی بے	7/-	اسلام دین فطرت	دین کامل
	اسلام اور سماجی انصاف	-	-	-	-	-	الاسلام
	-	V-6	7/-	سو شدید ایکھر اسلامی نظر	6/-	تعیریت	ٹپور اسلام
	اسلام اور دو رو باطن	-	-	-	-	-	اسلامی زندگی
God Arises	Rs	85/-	4/-	اسلام کا تاریخ	7/-	سماں کا سبق	احیاء اسلام
Muhammad		85/-	2/-	ہندی	5/-	فادرات کا سکر	رازی میات
The Prophet of Revolution				سپاں کی تماش	5/-	انسان اپنے آپ کو پہنچان	صراط مستقیم
Islam As It Is		40/-		شان اپنے آپ کو پہنچان	5/-	تخاریث اسلام	خاتون اسلام
God Oriented Life		60/-		-	-	-	سو شدید اور اسلام
Words of the Prophet		-		-	-	-	اسلام اور عصر حاضر
Indian Muslims (Hb)		145/-	3/-	تبغیر اسلام	5/-	(اسلام پندرہ صویں صدی میں	اسلام اور عصر حاضر
Indian Muslims (Pb)		55/-	3/-	عسویہ	7/-	سائیں بندیں	اسلام اور عصر حاضر
Introducing Islam		-		الاسلام یتھبھی	7/-	ایمان طاقت	اسلام اور عصر حاضر
Religion and Science		30/-	85/-	الامالام و التعمیل والحدیث	7/-	-	اسلام اور عصر حاضر
Tabligh Movement		20/-	-	-	-	-	اسلام اور عصر حاضر
Islam the Voice of Human Nature		-	-	-	-	-	اسلام اور عصر حاضر
Islam the Creator of Modern Age		-	-	-	-	-	اسلام اور عصر حاضر
The Way of Find God		6/-		منزل کی اور	10/-	زیارتی قیامت	اسلام اور عصر حاضر
The Teachings of Islam		7/-		آئیو کیسٹ	7/-	حقیقت کی تماش	اسلام اور عصر حاضر
The Good Life		7/-	25/-	حقیقت ایمان	A-1	حقیقت حج	اسلام اور عصر حاضر
The Garden of Paradise		7/-	25/-	حقیقت نماز	A-2	فوجہ اسلام	اسلام اور عصر حاضر
The Fire of Hell		7/-	25/-	حقیقت روند	A-3	آخری سفر	اسلام اور عصر حاضر
Man Know Thyself!		4/-	25/-	حقیقت نکرنا	A-4	اسلامی دعوت	اسلام اور عصر حاضر
Muhammad The Ideal Character		6/-	25/-	حقیقت تج	A-5	نما اور انسان	اسلام اور عصر حاضر
Polygamy and Islam		3/-	25/-	حقیقت تج	A-6	سچا راستہ	اسلام اور عصر حاضر
Words of Wisdom		-	25/-	حقیقت رسول	A-7	دینی تعلیم	اسلام اور عصر حاضر
فائیل الرسائلہ و مجم		-	25/-	میدان عمل	A-8	جیات پری	اسلام اور عصر حاضر
سال 1982		100/-		پیغمبر انہمانی	A-9	باغ جنت	اسلام اور عصر حاضر
1985		100/-	25/-	اسلامی دعوت	A-10	نماز بہشم	اسلام اور عصر حاضر
1986		100/-	25/-	کے جمیل اکاٹات	-	تلخیز رازی	اسلام اور عصر حاضر
1987		100/-	25/-	-	-	-	اقوال حکمت
1988		100/-	25/-	-	-	-	ڈائری بلڈ اول
1989		100/-	25/-	-	-	-	ڈائری بلڈ دوم
1990		100/-	25/-	-	-	-	سفنہ نام (ملکی اسفار)
1991		100/-	25/-	-	-	-	سفنہ نام (ملکی اسفار)
	فائیل الرسائلہ و مجم		25/-	اتحاویت	A-11	رہنمائے حیات	-
1984-1991	فی جلد ۱	100/-	25/-	تعیریت	A-12	شخصیات اسلام	-
	فائیل الرسائلہ و مجم		25/-	قصص قران	A-13	تعدد احوال	-
1990-91		100/-		-	-	-	-